

رَأَتْ حَقَرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا
بَنِيكِي كَيْ سَيِّ بَاتْ كُو هَرْگَزْ حَقَرَنَ بَخُو (الْمَدِينَ)

آسان نیکیاں

مؤلف

مفہوم جیسٹھے محمد تقی عثمانی صاحب

مکتبہ رحمانیہ ® اقراء سنٹر لاهور
غزنی ڈیلی، اردو بازار لاهور

فہرست عنوانات

عنوان	نمبر	عنوان	نمبر	عنوان	نمبر
تہبید	۵	۱۸ شکی کی ہدایت کرنا	۵۳	-	-
چند ضروری باتیں	۹	۱۹ صدقہ خیرات	۵۵	-	-
۱ اچھی نیت	۱۲	۲۰ معاف کرو دینا	۵۷	-	-
۲ دعا	۱۹	۲۱ فرم خوئی	۶۰	-	-
۳ مسنون دعائیں	۱۸	۲۲ صلح کرو دینا	۶۳	-	-
۴ استغفار	۱۹	۲۳ تیموں اور یہودیوں کی مدد	۶۵	-	-
۵ ذکر اللہ	۲۱	۲۴ اہل و غیال پر خرچ کرنا	۶۷	-	-
۶ درود شریف	۲۲	۲۵ والدین کے ساتھ حسن سلوک	۶۹	-	-
۷ شکر	۲۵	۲۶ والدین کے دوستوں اور عزیزوں	۷۱	-	-
۸ صبر	۳۰	۷۲ کے ساتھ حسن سلوک	۷۳	-	-
۹ بسم اللہ سے ہر اہم کام شروع کرنا	۳۵	۷۴ میاں بیوی کا آپس میں حسن سلوک	۷۵	-	-
۱۰ پہلے سلام کرنا	۳۶	۷۷ صلہ حجی	۷۷	-	-
۱۱ بیمار پری	۳۹	۷۹ پڑوی کے ساتھ نیک سلوک	۸۰	-	-
۱۲ نماز جنازہ اور مرد فین میں شرکت	۳۲	۸۰ خندہ پیشانی اور رخوش اخلاقی	۸۲	-	-
۱۳ تعریت اور مصیبت زدہ کی تسلی	۳۲	۸۱ ہم سفر سے حسن سلوک	۸۳	-	-
۱۴ اللہ کے لیے محبت کرنا	۳۵	۸۵ اللہ کے لیے ملاقات	۸۵	-	-
۱۵ کسی مسلمان کی مدد کرنا	۳۸	۸۶ ۳۳ مہمان کا اکرام	۸۶	-	-
۱۶ جائز سفارش کرنا	۵۰	۸۷ ۳۲ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرو دینا	۸۷	-	-
۱۷ کسی کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا	۵۱	۹۰ ۳۵ جھٹکے سے پرہیز	۹۰	-	-

نمبر	عنوان	صوبہ	نمبر	عنوان	نمبر
۳۶	دین کی بات سیکھنا		۹۱	۵۸ حاجی یا مجاہد کے گھر کی خبر گیری	۱۱۲
۳۷	دین کی بات سکھانا		۹۲	۵۹ شہادت کی دعا کرنا	۱۱۳
۳۸	بڑوں کی حزت		۹۳	۶۰ صحیح سویرے کام شروع کرنا	۱۱۴
۳۹	شاعر اسلام کی تعلیم		۹۴	۶۱ بازار میں ذکر اللہ	۱۱۵
۴۰	بچوں پر شفقت		۹۵	۶۲ پیش ہوئی چیز کا داپس لے لینا	۱۱۶
۴۱	اذان دینا		۹۶	۶۳ کسی ضرورت مدد کو قرض دینا	۱۱۷
۴۲	اذان کا جواب دینا		۹۷	۶۴ شکل دست مقرض کو مہلت دینا	۱۱۸
۴۳	خلافت قرآن کریم		۹۸	۶۵ تجارت میں حق بولنا	۱۱۹
۴۴	سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی خلافت		۱۰۰	۶۶ درخت لگانا	۱۲۰
۴۵	اچھی طرح و ضوکنا		۱۰۱	۶۷ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک	۱۲۱
۴۶	مساک کرنا		۱۰۲	۶۸ موزی جانوروں کو بہلا کرنا	۱۲۲
۴۷	وضو کے بعد کاذک		۱۰۳	۶۹ زبان کو تابو میں رکھنا	۱۲۳
۴۸	تحیۃ الوضو		۱۰۴	۷۰ فضول باتوں اور کاموں سے بچنا	۱۲۴
۴۹	تحیۃ المسجد		۱۰۵	۷۱ چ	۱۲۵
۵۰	اعکاف کی نیت		۱۰۶	۷۲ جائے	۱۲۶
۵۱	پہلی صفحہ میں نہایز پڑھنا		۱۰۷	۷۳ نیکیاں	۱۲۷
۵۲	صف کے خلا کو پر کرنا		۱۰۸	۷۴ دائیں طرف سے شروع کرنا	۱۲۸
۵۳	نماز اشراق		۱۰۹	۷۵ گرے ہوئے لئے کو صاف کر کے	۱۲۹
۵۴	جمع کے دن غسل اور خوشبوگنا		۱۱۰	۷۶ کھالیتا	۱۳۰
۵۵	روزے میں محرومی کھانا		۱۱۱	۷۷ چیک آئے پر محمد اور اس کا جواب	۱۳۱
۵۶	اظفار جلدی کرنا		۱۱۲	۷۸ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خیانت	۱۳۲
۵۷	روزہ دار کا اظفار کرنا		۱۱۳	۷۹ اللہ تعالیٰ سے امید اور حسن نیت	۱۳۳

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لئے پیدا فرمائی ہے کہ اس کے بندے یہاں وہ کر
 اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کا سامان کریں اور ایسے کام کریں جن سے
 اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو۔

لیکن ہم لوگ دنیا کے کاروبار میں لگ کر اپنی زندگی کے اس اصلی مقصد سے
 غافل ہو رہے ہیں۔ ہماری صحیح سے لے کر شام تک کی زندگی اپنی دنیا کو زیادہ سے زیادہ
 بہتر اور مزے دار بنانے کی دوڑ دھوپ میں صرف ہو رہی ہے۔ اور اس دوڑ دھوپ میں
 بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جنھیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا خیال آتا ہو۔
 حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے جس سے کوئی در ہر یہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک دن اس
 دنیا سے جانا ہے اور جانے کا وقت بھی مقرر نہیں، خدا جانے کب بلا وہ آجائے؟

اسلام نے آخرت کو بہتر بنانے کے لئے جو طریقے تائے ہیں، درحقیقت وہ
 کچھ مشکل نہیں ہیں بلکہ اگر انسان ان طریقوں کو اختیار کرے تو اس کی دنیا بھی یہ سکون
 ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا
 ایک مشکل کام ہے جس کے لئے اپنے بہت سے دنیوی مفادات بہت سی الذین اور
 بہت سا عیش و آرام قربان کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس مشکل کا تصور کر

کے اس راہ پر چند قدم چلنا بھی شروع نہیں کرتے۔

حالانکہ اول تو اسلامی احکام اپنی ذات میں مشکل نہیں ہیں اور جو اللہ کا بندہ ان پر عمل کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد بھی ہوتی ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سورجاتی ہیں۔

دوسرے اگر بالفرض کسی حکم پر عمل کرنے میں کچھ مشقت یاد شواری بھی ہو تو وہ دشواری آخرت کے ابدی اور سرمدی فائدوں کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ آخر ہر انسان روزی کمانے کے لئے نعمتِ اٹھانا ہی ہے اور اس نعمت کو پہنڈ بھی کرتا ہے۔ اس لئے کہ معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں روزی ملنے والی ہے۔ اسی طرح اگر اسلامی احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں آخرت کی وہ نعمتیں ملنے والی ہیں جن کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس عظیم مقصد کے لئے تھوڑی سی مشقت سے کیوں گھبراہٹ ہو؟

تیسرا بات یہ ہے کہ اسلامی احکام اور تعلیمات میں سے کچھ قوایے ہیں جن پر عمل کرنے میں کچھ تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال ایسے بتلائے ہیں جن پر عمل کرنے میں نہ کوئی خاص محنت کرنی پڑتی ہے۔ نہ بہت سا وقت صرف ہوتا ہے نہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ بس ذرا سے دھیان کی بات ہے اگر انسان ذرا دھیان سے کام لے تو کسی خاص محنت یا خرچ کے بغیر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اگر انسان ان اعمال کی پابندی کرے تو انشاء اللہ بیٹھے بھائے آخرت کا بہت سا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔

نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی آج ہمیں کماحتہ قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ لیکن جس دن یا آنکھیں بند ہوں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو گی۔

اور حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی کیا قیمت ہے؟ وہاں کا سکردوپیہ نہیں ہے وہاں سونا چاندی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں کا سکرتوپیہ نیکیاں ہوں گی اور یہی سوال ہو گا کہ اپنے دامن میں کتنی نیکیاں لے کر آئے ہو؟ اس وقت اگر دامن خالی ہوا تو حسرت اور ناقابل برداشت حسرت ہو گی کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کیوں نہ کر لیا؟ لیکن عمل کا وقت ختم ہو چکا ہو گا اس لئے یہ حسرت کچھ کام نہیں آ سکے گی۔

حضرات صحابہ کرامؓ جن کو ان نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم تھی وہ ان نیک کاموں کے حریص تھے جہاں کسی عمل کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں فوراً اس پر عمل شروع کر دیا اور جس عمل کا ثواب ہونا انہیں دریے سے معلوم ہوتا۔ اس پر افسوس کا اظہار کرتے کہ یہ بات ہمیں پہلے معلوم نہ ہوئی ورنہ ہم پہلے سے اس نیکی کو معمول بناتے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث سنائی کہ جو شخص کسی جنازے کی نماز پڑھے۔ اس کو ایک قیراط^۱ ثواب ملتا ہے اور جو میت کے دفن ہونے تک جنازے کے پیچھے جائے اسے دو قیراط ملتے ہیں جن میں سے ایک احمد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ نے حضرت عائشہؓ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی تصدیق فرمائی تو حضرت ابن عمرؓ نے بے ساختہ فرمایا۔ کہ ہم نے بہت سے قیراط بلا وجہ ضائع کر دیے۔ (جامع ترمذ)

غرض یہ کہ ہر وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے، برمی قابل

۱۔ قیراط ایک پیانہ ہے جس سے سونا چاندی تو لے جاتے تھے۔

قدر چیز ہے اور دنیا میں رہ کر ہی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور سے ایسے نیک کام جنہیں انجام دینے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ انھیں صرف بے پرواہی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ دینا تو اتنے گھانے کا سودا ہے کہ آخرت میں اس کی حسرت ناقابل برداشت ہو گی۔

لہذا خیال آیا کہ ایک مختصر رسالے میں ایسی آسان تیکیوں کی ایک فہرست جمع کر دی جائے جن کو انجام دینے میں کوئی خاص محنت خرچ ہوتی ہے نہ کوئی خاص وقت لگتا ہے۔ بس ذرا سی توجہ کے ذریعے انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ ان زریں اعمال کو غور اور جذبے کے ساتھ پڑھیں اور ان کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل فرمائیں، کیا بعید ہے کہ ہمیں بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنادیں اور ان کے ذریعے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے احقر کو اور سب مسلمانوں کو ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ کہ ہماری عاقبت بخیر فرمادیں۔ آمین ثم آمین

احقر

محمد تقی عثمانی عفی عنہ

دارالعلوم کراچی ۱۴۲۷

۱۹ جمادی الثانی ۱۴۰۹ھ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چند ضروری باتیں

اس کتاب میں ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی انجام دہی میں کوئی خاص مشقت یا محنت اٹھانی نہیں پڑتی۔ لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان آسان نیکیوں پر عمل کرنے اور انہیں آخرت کا ذخیرہ بنانے کا داعیہ دلوں میں پیدا ہو۔ لیکن اس کتاب کو پڑھتے وقت مندرجہ ذیل باتیں ذہن نشین کرنی ضروری ہیں۔

۱۔ اس کتاب کا موضوع چونکہ صرف ان نیکیوں کا بیان ہے جو نہایت آسان ہیں اور ہر شخص انہیں کسی خاص مشقت کے بغیر فوراً اشروع کر سکتا ہے اس لئے اس میں فرائض و واجبات اور دوسرے بہت سے ضروری اعمال کا ذکر نہیں ہے۔ الہذا یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ دین صرف ان اعمال پر منحصر نہیں ہے جو اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں۔ دین کے احکام زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تمام اور کان فرائض اور واجبات کو بجالائے اور گناہوں سے پرہیز کرے۔ لیکن اس کتاب کے دو مقصد ہیں۔

ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو حضرات پہلے سے فرائض و واجبات کا اہتمام کرتے ہیں ان کو مزید ایسے اعمال کی ترغیب دی جائے جو ان کے نامہ اعمال میں با انسانی بیش قیمت اضافہ کر سکیں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات دین کو مشکل سمجھ کر اس سے

بالکل غافل ہو بیٹھے ہیں ان کو ایسے آسان اعمال کی ترغیب دی جائے جن کو شروع کرنا پچھو مشکل نہیں ہے اور وہ ان آسان اعمال سے دین کی طرف پیش قدمی کا فوراً آغاز کر سکتے ہیں اور امید یہ ہے کہ اگر ان آسان اعمال کی انہوں نے پابندی کر لی تو انشاء اللہ ان کے دل میں رفتہ رفتہ دین کے تمام احکام پر عمل کی رغبت پیدا ہوگی اور بالآخر مکمل دینی زندگی کو اپنانا ان کے لئے آسان ہو جائے گا۔

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں جگہ جگہ ایسی احادیث درج ہیں جن میں بعض آسان اعمال پر گناہوں کی مغفرت کے وعدے کئے گئے ہیں ایسی احادیث کے مطابعے کے وقت یہ بات ذہن میں رُونی چاہیے کہ نیک اعمال سے جو گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ جہاں تک گناہ کبیرہ کا تعلق ہے وہ قاعدے سے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

إِنْ تَجْتَبِيُوا كَبَائِرَ مَا تَهْوُنَ عَنْهُ نُكَفَّرُ عَنْكُمْ سَيَّارَاتُكُمْ.

”اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں سے پہیز کرو جن سے تم کورو کا جاتا ہے تو

هُمْ تَهْبَرَنَّ چھوٹے گناہوں کا کفارہ کرتے رہیں گے۔“

اسی طرح وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک یا تو حقدار کو اس کا حق پہنچانے دیا جائے یا حقدار اس کو معاف نہ کر دے۔

لہذا اس کتاب میں مختلف نیکیوں کے تحت جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خواہ کسی قسم کے کتنے ہی گناہ کرتا رہے توبہ کے بغیر بھی چند آسان اعمال کے ذریعے وہ ان کو معاف کرتا رہے گا۔

دراصل جس ماحول میں آنحضرت ﷺ نے مختلف نیکیوں پر گناہوں کی

معافی کا ذکر فرمایا ہے وہاں یہ تصور مشکل ہی ہے آتا تھا کہ کوئی مومن کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہو گا اور اس سے توہنیں کرے گا۔ لہذا لوگوں کے زیادہ تر گناہ صغیرہ ہوتے تھے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان ہی کی معافی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے گناہ کبیرہ کی عینکی اور توہہ کی ضرورت و اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

۳۔ ان دو باتوں کو پوری طرح ملحوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد بھی نہ بھولنا چاہیے کہ:

لَا تَحْقِرُنَّ مِنَ الْمَغْرُوفِ شَيْئًا

”دینکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو۔“

لہذا شیطان کے اس دھوکے میں بھی نہ آنا چاہیے کہ اگر ہم دین کے بڑے بڑے کام کرنے سے محروم ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکیں گی؟ واقعہ یہ ہے کہ نیکی کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے اور جس وقت جس نیکی کی توفیق ہو جائے اسے غنیمت سمجھ کر ضرور کر لیتا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائیں تو اس کی برکت سے ہماری باقی زندگی بھی درست ہو جائے۔

اس جذبے اور اس اعتدالی فکر کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ انشاء اللہ مفید ثابت ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیں اور دین کے تمام احکام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

آمین ثم آمین

(۱) اچھی نیت: نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ کیا عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے یہ بات تو قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے۔ کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کوئی شخص کسی کے گھر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہو گا وہ صدقہ کروں گا تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہو گا۔

لیکن آنحضرت ﷺ کے مذکورہ بالا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ:

①۔ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلاً نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لئے پڑھی تو ثواب غارت ہو جائے گا، الگا گناہ ہو گا۔

②۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اور یہی اس وقت بیان کرنا مقصود ہے کہ جتنے کام مبارح یا جائز ہیں۔ ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب۔ لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کئے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثلاً کھانا کھانا مبارحات میں سے ہے لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہو گی تو اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا۔ تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہو ہو گا یا اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے۔ اس کی ادائیگی کے لئے کھانا کھاتا ہوں یا اس نیت سے کھائے کہ اس سے لذت و راحت حاصل ہو گی تو دل

سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہو گا۔ غرض زندگی کا کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور موجب ثواب نہ بنایا جاسکتا ہو۔ مثلاً اچھی نیت کی چند مثالیں جن سے ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو ثواب بنا سکتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

◎ روزی کمائنا، خواہ تجارت کی شکل میں ہو یا ملازمت کی شکل میں یا زراعت و صنعت کی شکل میں اس میں اگر انسان یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو میرے نفس اور میرے گھروالوں کے حقوق عائد کئے ہیں۔ یہ کماں اس لئے کر رہا ہوں کہ وہ حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کر سکوں، تو حلال روزی کمانے کی یہ ساری کارروائی عبادت اور ثواب بن جائے گی۔

پھر اس میں اگر یہ نیت بھی کر لے کہ اپنی آدمی کو اپنی اور گھروالوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے غریبوں کی امداد اور دوسرا نیک کاموں پر خرچ کروں گا تو اس نیت سے مزید ثواب ملے گا۔

◎ اگر ایک شخص ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ نیت یہ کر لے کہ میں اس علم کے ذریعے خدمت خلق کروں گا۔ مثلاً کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے تو مخلوق کو دین پہنچانے کی نیت کر لے۔ میڈیکل سائنس کا طالب علم ہے تو یہ نیت کرے کہ ڈاکٹریت کے ذریعے میں مریضوں کی خدمت کروں گا، انجینئرنگ کا طالب علم ہے تو یہ نیت کرے کہ میں اس فن سے ملک و قوم کی خدمت کروں گا، کوئی اور ہنر سیکھ رہا ہے تو اس غرض سے سیکھے کہ جو لوگ اس ہنر کے ضرورت مند ہوں گے۔ ان کی حاجت پوری کروں گا تو انشاء اللہ جتنا وقت وہ تعلیم حاصل کرنے میں گزارے گا۔ اس کو اس نیت کا ثواب ملتا رہے گا۔

◎ پھر انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے اس میں یہ سوچے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملے گا اور اس کو حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔ لیکن میں فلاں راستے اس لئے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کروں تو یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔

مثلاً کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ رزق کے بہت سے راستوں میں سے یہ راستہ میں نے اس لئے منتخب کیا ہے کہ اس کے ذریعے تکلیف میں بہتلا لوگوں کی مدد ہو گی تو خواہ وہ مریضوں سے جائز اور مناسب اجرت وصول کرے تب بھی انشاء اللہ اس نیت کا ثواب ملے گا اور جب واقعہ یہ نیت ہو گی تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع بھی آئیں گے جب وہ کسی شخص کو غریب دیکھے تو اس کا علاج بلا معاوضہ یا بہت رعایتی معاوضے پر پکرے۔

کوئی شخص مثلاً کپڑے کی تجارت کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ نیت کر لے کہ ہر انسان کے ذمے شرعاً بابس پہننا واجب ہے۔ میں بہت سے پیشوں میں سے اس پیشے کا انتخاب اس لئے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مخلوق کو اس واجب کی ادائیگی میں مددوں گا تو امید ہے کہ انشاء اللہ یہ پیشہ بھی باعث اجر ہو جائے گا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنی ملازمت میں یہ نیت کرے کہ اس کے ذریعے مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کا موقع ملے گا تو خواہ وہ یہ کام تنخواہ لے کر کر رہا ہو۔ انشاء اللہ اس نیت کا ثواب ملے گا۔ غرض کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھی نیت نہ کی جاسکتی ہو۔

◎ اسی طرح اچھا بابس اس لئے پہننا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کا اثر نظر آئے اور دیکھنے والوں کو فرحت ہو (نہ یہ کہ وہ مجھے بڑایا

دولت مند سمجھیں)

- ◎ اپنے بچوں سے اس نیت سے پیار کیا جائے کہ آنحضرت ﷺ کی سنت یہ ہے کہ آپ بچوں سے محبت فرماتے تھے۔
- ◎ گھر کا کام اس نیت سے کیا جائے کہ آنحضرت ﷺ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنے گھروالوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔
- ◎ بیوی بچوں سے خوش طبعی کی باقی میں اس نیت سے کی جائیں کہ یہ آنحضرت ﷺ کی سنت ہے اور آپ نے ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔
- ◎ مہانوں کی خاطر مدارت اس غرض سے کی جائے کہ مہمان کا اکرام سنت ہے اور مومن کے حقوق میں سے ہے۔
- ◎ گھر میں کوئی پودا یا درخت لگانا ہو تو اس نیت سے لگایا جائے کہ اس سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ پہنچ گا اور دیکھنے والوں کو اس کا منظر اچھا معلوم ہو گا تو ان کو اس سے خوشی ہوگی۔
- ◎ اپنی تحریر کو اس نیت سے صاف اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی جائے کہ پڑھنے والوں کو سہولت ہوگی۔
- ◎ عورت جائز زیب و زینت اس لئے کرے کہ شوہر کو خوشی حاصل ہوگی اور مرد اس نیت سے صاف سترار ہے کہ بیوی کو سرست اور راحت ملے گی۔
- ◎ جائز تفریحات بقدر ضرورت اس غرض سے کی جائیں کہ ان سے فرائض کی ادائیگی میں چلتی اور نشاط پیدا ہو گا۔
- ◎ گھری اس نیت سے رکھی جائے کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہو گا اور وقت کی قدر و قیمت پہچان کر اسے اچھے کاموں میں صرف کروں گا۔

غرض یہ تو چند متفرق اور سرسری بٹالیں ہیں۔ ورنہ جیسا کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بجا طور پر فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر کے ثواب کا کام نہ بنایا جاسکے۔ یہاں تک کہ میاں یہوی آپس میں ایک دوسرے سے اگر اس نیت سے لذت حاصل کریں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس سے دونوں کو عفت اور پاک داشتی حاصل ہوگی تو اس عمل پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔

(۲) دعا: اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے۔ دنیا میں کسی شخص سے بار بار کچھ نہ کچھ مانگا جاتا رہے تو چاہے وہ کتاب بڑا تھی ہو بالآخر اکتا کرنا راض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے بندہ جتنا زیادہ مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔

پھر یہی نہیں کہ دعا اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ وہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یعنی دعا خواہ اپنے ذاتی اور دنیاوی مقصد کے لئے مانگی جائے وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ اور یعنی زیادہ دعا مانگی جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شکنگی اور مشکلات کے وقت ہی دعا مانگی جائے بلکہ خوشحالی اور مسرتوں کے وقت بھی دعا مانگیں مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ مصائب اور شکنگیوں کے وقت اس کی دعا میں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ خوش حالی کے وقت دعا کی کثرت کرے۔

(جامع الاصول، بخاری، ترمذی)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ ”بُجَهٖ سے دعا کرو میں قبول

کروں گا۔ ”اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ غلط نہیں ہو سکتا“ اس لئے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہی چیزیں جاتی ہے جو مانگنی گئی تھی اور بعض اوقات وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں بندے کے لئے مناسب یا فائدہ مند نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور مفید چیز دینیا یا آخرت میں عطا فرمادیتے ہیں۔ اس طرح ہر دعا کے متن فائدے ہیں۔

①۔ دعا کی قبولیت سے مراد یہ پوری ہوتی ہیں۔

②۔ ہر دعا پر ثواب ملتا ہے۔

③۔ دعا کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔

پھر اگرچہ دعا مانگنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگی جائے اور پہلے حمد شنا اور درود شریف پڑھا جائے لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو تو اس کے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا آسان فرمادیا ہے کہ وہ تقریباً ہر وقت اور ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے۔ چلتے پھر تے بھی کام کرتے ہوئے بھی اور اگر زبان سے مانگنے کا موقع نہ ہو (مثلاً بیت الحکماء وغیرہ میں) تو دل ہی دل میں بھی مانگی جا سکتی ہے۔

پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دعائیں بڑی بڑی چیزیں مانگی جائیں بلکہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ (زنہی)

لہذا اس بات کی عادت ڈال لئی چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی پیش آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کوئی معمولی سے معمولی تکلیف ہو تو اس کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے۔ جس طرح پچھے کو جب کوئی

ضرورت پیش آتی ہے یا کوئی ادنیٰ تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور پکارتا رہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ عادت ڈال کر دیکھیں، انشاء اللہ اس سے بہت جلد ترقی ہوگی۔

(۳) مسنون دعائیں: یوں تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ لیکن ضرور و دو عالم ﷺ نے دن رات کے مختلف اوقات میں مختلف موقع پر کچھ خاص خاص دعا میں سکھائی ہیں مثلاً نیند سے بیدار ہو کر کیا دعا کریں؟ بیت الخلا میں جانے سے پہلے کیا کہیں؟ وہاں سے باہر نکل کر کیا پڑھیں؟ وضو کرنے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلنے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، اذان سننے کے بعد، کپڑے پہننے وقت، آینہ دیکھنے وقت، بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے غرض مختلف موقع پر مختلف دعا میں سکھائی ہیں۔ جو ہمارے دین و دنیا کی تمام ضرورتوں کے لئے انتہائی جامع اور مقید دعا میں ہیں۔ اگر ہم ساری عمر سوچتے رہیں تب بھی اسکی دعا میں خود سے نہ اگ سکیں جو سر کا رد دو عالم ﷺ نے سکھا دی ہیں۔

ان دعاوں کے پڑھنے میں نہ کوئی وقت صرف ہوتا ہے نہ محنت لگتی ہے۔ ان کے لئے وضو شرط ہے نہ ہاتھ اٹھانے چاہیں۔ لیں اگر ان دعاوں کو یاد کر لیا جائے تو ذرا سے دھیان کی بات ہے اور اس معمولی سی توجہ کے نتیجے میں دنیا و آخرت کے عظیم مقاصد اور فوائد حاصل ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی خاص محنت کے نہ، اعمال میں نیکیوں کے ذخیرے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔

لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا میں ضرور یاد کر لے۔ بہت سی کتابیں اسکی

ہیں جن میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کی کتاب ”مناجات مقبول“ میں بھی اسی پیشتر دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ اس میں دیکھ کر یہ دعائیں یاد کی جاسکتی ہیں، خوبھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کر کر بچپن میں ان کا عادی بنا کیں تو انشاء اللہ ان کی دعاؤں کا ثواب بھی ملے گا۔

دوسروں کے لیے دعا: جس طرح اپنی حاجتوں کے لئے دعا مانگتی چاہیے۔ اسی طرح اپنے دوسرے اعزہ واقریباً، دوست و احباب اور عام مسلمانوں کے لئے دعا مانگنا بھی بہت فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں تم کو بھی ویسی ہی بھلائی ملے۔“ (صحیح مسلم)

لہذا جس کسی مسلمان کے بارے میں علم ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہے یا اس کو پریشانی لاحق ہے یا کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اس کے حق میں دعا کرنی چاہئے۔ بلکہ کافروں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائیں۔ اس سے دعا کا ثواب بھی ملتا ہے اور دوسروں کی خیر خواہی کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔

(۳) استغفار: اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے۔ استغفار کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو تو بہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے لہذا جب کوئی گناہ صغیر یا کبیرہ سرزد ہو فوراً تو بہ اور استغفار سے اس کی تلاشی کرنی چاہئے بلکہ خلاف اولیٰ امور پر بھی استغفار کرنا چاہیے اور بظاہر کوئی گناہ سرزد ہے ہوا ہوت بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار اور عالم ﷺ گناہوں سے بالکل محروم اور پاک تھے۔ اس

کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ ”میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ ستر سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔“ (بخاری)

ایک حدیث میں سورہ دو عالم ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ”جو شخص استغفار کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہرگز میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہرغم کو دور فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ (ابوداؤذ کتاب الصلاۃ باب الاستغفار)

لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے۔

سید الاستغفار

استغفار ہر زبان میں ہو سکتا ہے لیکن اس کا مختصر عربی جملہ یہ ہے:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ أَتُوْبُ إِلَيْهِ.

میں اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

لیکن حدیث میں استغفار کی ایک مخصوص دعا کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں اور اسے ”سید الاستغفار“ (استغفار کا سردار) قرار دیا گیا ہے۔ وہ استغفار یہ ہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى
عَهْدِكَ وَ وَعَدْكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَغْوَيْتُكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
أَبُوءُ إِلَيْكَ بِعَمَلِكَ عَلَىٰ وَ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوبِي
فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

یا اللہ! آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبد نہیں، آپ

نے مجھے پیدا کیا۔ میں آپ کا بندہ ہوں اور میں حتی الوع آپ سے کئے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شرے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائیں، انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتا ہوں اور اپنے گناہ سے بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں لہذا میرے گناہ معاف فرماد تھے کیوں کہ آپ کے سوا کوئی گناہ ہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔

حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ صحیح کے وقت کہے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں شمار ہو گا اور جو شخص یہ کلمات رات کے وقت پورے یقین کے ساتھ کہے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ الٰل جنت میں سے ہے۔ (صحیح بخاری باب افضل الاستغفار)

خاص طور سے رات کو سونے سے پہلے چند بار حضور قلب کے ساتھ اپنے دن بھر کے اعمال کی کوتا ہیوں کا اجمالی تصور کر کے ان سب سے استغفار کر لینا چاہئے۔
(۵) ذکر اللہ: اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایسی لذیذ اور آسان عبادت ہے کہ اسے انسان معمولی سی توجہ سے ہر وقت انجام دے سکتا ہے اور اس کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنا ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذْ كُرُوا اللَّهُ ذُكْرًا كَثِيرًا .
 اسے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔

ظاہر ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں وہ بندوں کے ذکر سے بے نیاز ہے لیکن اس میں بندوں کا فائدہ ہے کہ ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ

تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان کی روح کو غذا ملتی ہے جس سے اس میں بالیدگی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس روحانی قوت کے نتیجے میں انسان کے لئے نفس اور شیطان کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں بھی ہمولت ہوتی ہے اور ہر ذکر کے ساتھ نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

ایک صحابی نے رسول کریم ﷺ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے بلند رتبہ عبادت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کا ذکر“ (جامع الاصول ص ۵ ج ۲)

ایک صحابی نے ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا لہذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں گردہ سے باندھ لوں اور زیادہ با تسلی نہ بتائیے گا کیوں کہ میں بھول جاؤں گا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا: ”تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ترہا کرے۔“ (جامع ترمذی۔ دعوات باب فضل الذکر)

حضرت ابو موسیٰ اشتری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کیا جائے ان کی مثالی زندہ اور مردہ کی سی ہے (یعنی ذکر والا گھر زندہ ہے اور بغیر ذکر کا گھر مردہ)۔ (بخاری و مسلم)

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جو لوگ کسی مجلس سے اس حالت میں اٹھ جائیں کہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کیا ہو تو وہ مردار گدھے پر سے اٹھے اور یہ مجلس ان کے لئے (قیامت کے دن) حضرت کا باعث بنے گی (یعنی یہ حضرت ہو گی کہ اتنا وقت ہم نے بیکار ضائع کر دیا۔ (ابوداؤد)

ای لئے حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مجلس کے آخر میں یہ کلمات پڑھ لینے چاہیں:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

اس سے اس مجلس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ (نامی) ذکر اللہ کی ان عظیم فضیلوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کے لئے کوئی شرط عائد نہیں فرمائی۔ اگر وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر یکسوئی سے ذکر کر سکے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کا موقع نہ ملے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام میں لگے ہوئے ہر حال میں یہ عبادات انجام دی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے وضو بھی شرط نہیں ہے بلکہ حالت اور حالت جنابت ہیں میں بھی ذکر جائز ہے۔ صرف برہنگی کی حالت میں یا نجاست کے مقامات پر مثلاً بیت الخلاء میں زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی دل ہی دل میں ذکر کرنا جائز ہے لہذا اس عظیم عبادت کا ثواب انسان ہر وقت بغیر کسی خاص محنت و مشقت کے حاصل کر سکتا ہے اور مناسب یہ ہے کہ دن رات میں کچھ وقت تو ایسا مقرر کر لیا جائے جس میں باقاعدہ باوضو اور قبلہ رخ ہو کر یکسوئی سے ذکر کیا جائے اور باقی اوقات میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاموں کے درمیان لیٹئے بیٹھئے جتنے ذکر کی توفیق ہو جائے، نعمت ہی نعمت ہے۔

خاص خاص اذکار کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

۱۔ فضائل ذکر، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔

۲۔ ذکر اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ۔

۳۔ معمولات یومیہ سیدی و سندی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس سرہ۔

چند مختصر اذ کار مندرجہ ذیل ہیں۔ چلتے پھرتے ان کو دروزبان رکھنے کی عادت
ڈال لی جائے۔

①۔ حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے
زیادہ محبوب چار لکے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. (صحیح مسلم)

②۔ حدیث میں ہے کہ دو لکے حسن کو بہت محبوب ہیں وہ زبان پر ہلکے ہیں۔ مگر
میزان عمل میں بہت وزنی ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (بخاری وسلم)

③۔ حدیث میں ہے کہ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كُثُر سے پڑھا کرو
کیوں کہ کلمات جنت کے خرانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ (مکونہ)

④۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ**
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

حدیث میں ہے کہ جو شخص صحیح کے وقت یہ کلمات پڑھتے تو اس کو اولاد اسے عمل
علیہ السلام میں سے وس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، وس نیکیاں تکمیل جاتی
ہیں، وس گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وس درجے بلند ہو جاتے ہیں اور شام تک وہ شیطان
کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور یہی کلمات شام کو کہے تو صحیح تک یہی فوائد حاصل ہوتے
ہیں۔ (ابوداؤد)

⑤۔ **حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكِّلُتْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ**
الْعَظِيمِ.

(۶) درود شریف: آنحضرت ﷺ پر درود شریف صحیحیت کے اتنے فضائل احادیث

میں آئے ہیں کہ ان سے ایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے اور بہت سے علماء نے اس پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ ”میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ اور اس نے کہا کہ آپ کی امت کا جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہ نیکیاں لکھتے ہیں۔ اس کے دوں گناہ (صغیرہ) معاف فرماتے ہیں اور اس کے دوں درجات بلند فرماتے ہیں۔“ (سنن نبأی و مسند احمد۔ الترغیب للمنذری ص ۷۵ ارج ۳)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا سے چاہئے کہ مجھ پر درود بھیجے اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دوں مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔“ (ایضاً) درود شریف میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور سب سے محترم ”صلی اللہ علیہ وسلم“ ہے اس سے بھی درود شریف کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب آنحضرت ﷺ کا نام نامی لکھا جائے تو پورا جملہ ﷺ لکھنا چاہئے کہ صرف صلم یا ۴ لکھنا کافی نہیں ہے۔

(۷) شکر: اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں ہر آن انسان پر مبذول رہتی ہیں یعنی انی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُّوْهَا.

”اوہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گنتا چاہو تو ان کو تھیک تھیک شمار نہ کر سکو گے۔“

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اگر دوسری نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے تو صرف زندگی کی نعمت اتنی بے حساب ہے کہ ہر سانس میں دو نعمتوں پہنچاں ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت ہے کیوں کہ اگر سانس اندر جائے اور

باہر نہ آئے تو مصیبت ہے اور باہر آئے اندر نہ جائے تو دوسری مصیبت ہے لہذا ہر سانس پر انسان کو دل نعمتوں ملتی ہیں اور ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے لہذا اگر ہر سانس پر آدمی ایک پار شکر ادا کرے تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بے شمار نعمتوں کا کیسے شکر ادا ہو سکتا ہے۔

غرض اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تھیک تھیک شکر ادا کرنا تو انسان کے بس سے باہر ہے لیکن کثرت سے شکر ادا کرتے رہنا ایک انتہائی محبوب عمل ہے جس پر ثواب بھی بے حساب ملتا ہے۔ نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَإِذْ شُكُرُونَيْ أَذْكُرْنُّمْ وَأَشْكُرُوْالِيْ وَلَا تَكُفُرُونَ.

پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَسَنَجِزْنِي الشَّاِكِرِينَ.

اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھا صلدیں گے۔

نیز ارشاد ہے:

لَيْنُ شَكْرُتُمْ لَازِيْدَنْكُمْ وَلَيْنُ كَفْرُتُمْ إِنْ عَذَابِيْ لَشَدِيدَ.

اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو

میرا عذاب خت ہے۔

اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت محبوب ہے اور ناشکر ایک شخص نہایت ناپسند ہے۔

کیونکہ ناشکری انتہائی سمجھ نظری کی علامت ہے۔ ناشکرے شخص کو اگر کوئی ذرا سی

تکلیف پہنچ جائے تو وہ اسی کو لے بیٹھتا ہے اسے وہ بے شمار نعمتوں نظر نہیں آتیں جو عین اس تکلیف کے عالم میں بھی اس پر پرس رہی ہوتی ہیں اور وہ ذرا سی تکلیف کو پہاڑ بنا کر اسی کاررونا روتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس شکر گزار بندے کا حال یہ ہے کہ تکلیف کے عالم میں بھی اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر رہتی ہے۔ وہ ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ تکلیف کے دور ہونے کی دعا بھی کرتا ہے۔

فرض کیجئے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اگر وہ ناشکرا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھلا کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ تم رسیدہ اور مظلوم سمجھے گا اور ناشکری کے کلمات زبان سے نکالے گا۔ لیکن اگر وہ شکر گزار بندہ ہے تو بیماری سے محفوظ اور پریشان ہونے کے باوجود وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے پیشتر اوقات میں جو صحبت عطا فرمائی وہ کتنی بڑی نعمت تھی اور اس بیماری میں بھی تیار داروں، معالجوں اور دواؤں کی صورت میں تسلی کے جواب سب میسر ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ جو لوگ اس سے زیادہ بیمار ہیں ان کا تصور کر کے شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری سے محفوظ رکھا وہ بیماری دور ہونے کی دعا ضرور کرے گا۔ لیکن شکونے کے لمحے میں نہیں بلکہ اپنی کمزوری اور عاجزی کے لمحے میں وہ تکلیف سے پریشان بھی ہو گا تو اس پریشانی میں ناشکری اور گلے ٹکنوں کا شائبہ نہیں ہو گا۔

انسان پر شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ناشکری میں جلا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب شیطان کو قیامت تک جیئے کی مہلت مل گئی تو اس نے اللہ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور ہرست سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ پھر اپنے ان جملوں کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔

اور آپ ان میں سے اکثر کوشکر گزار نہیں پائیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کوشکر کی عبادت سے محروم کر کے انہیں ناشکرا بنا دے اس کے برخلاف جو بندہ شکر گزار بننے کا تھیہ کر لے۔ اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔

غرض اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بڑی عظیم عبادت ہے اور یہ عظیم عبادت چند جوں میں ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ

الطَّاعُمُ الشَّاكِرُ بِمُتْزَلَّةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ۔

جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرے وہ ثواب میں اس روزہ دار کے برابر ہے جس نے کھانے سے صبر کیا۔ (بخاری و ترمذی)

لہذا شب دروز کی زندگی میں جو کوئی چھوٹی بڑی نعمت یا راحت میرا آئے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو عافیت سے دیکھا تو شکر ادا کرے اچھا کھانا سامنے آیا تو شکر ادا کرے۔ ہوا کا جھونکا اچھا معلوم ہو تو شکر ادا کرے۔ پچھلیا ہوا اچھانگ تو شکر ادا کرے۔ غرض ہروہ بات جس سے خوشی یا آرام حاصل ہواں پر شکر ادا کرنے اور کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر زبان سے نہیں تو دل ہی دل میں شکر ادا کر لینا چاہیے۔

شیز بزرگوں نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ رات کو بستر پر بکھن کر سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کیا کرے اور ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرے مثلاً تصور کرے کہ الحمد للہ میری اور اہل و عیال کی صحت صحیک ہے۔ الحمد للہ سرچھپانے کو گھر میرے ہے۔ الحمد للہ بستر آرام دہ ہے۔ الحمد للہ جان و مال محفوظ

ہیں۔ غرض جتنی راحتیں میرے ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے تصور کرے اور اس پر شکر ادا کر کے سوئے۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اور امید ہے کہ انشاء اللہ اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی۔

یوں تو شکر ادا کرنے کے لئے کوئی لفظ متعین نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی زبان میں بھی شکر ادا کر سکتا ہے۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے ادائے شکر کے لئے ایسے جامع الفاظ بھی تلقین فرمائے ہیں جن سے ایک مرتبہ ہی میں ہزاروں مرتبہ شکر ادا کرنے کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ الفاظ یہ ہیں:

①. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ وَلَكَ
الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خَلُودِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا
لَا مُنْتَهِي لَهُ دُونَ مَيْتَيْكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ
قَاتِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ
وَتَنْفُسِ كُلِّ نَفْسٍ۔

یا اللہ! آپ کا شکر ہے۔ ایسا شکر جو آپ کے وائی و وجود کے ساتھ وائی ہو۔ آپ کا شکر ہے۔ ایسا شکر جو آپ کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ ہمیشہ رہے اور آپ کا شکر ہے ایسا شکر جس کی آپ کی مشیت کے سوا کوئی انہما نہیں اور آپ کا شکر ہے ایسا شکر جس کا کہنے والا آپ کی خشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتا اور آپ کا شکر ہے آنکھ کی ہر جھپک پر اور سینے کے ہر

تغییر پر۔

② اللہم لَكَ الْحَمْدُ عَذْدَ خَلْقِكَ وَمَدَادَ كَلِمَاتِكَ وَزِنَةَ
عَرْشِكَ وَرِحْضَا نَفْسِكَ۔

اے اللہ! آپ کی حمد کرتا ہوں آپ کی تخلوقات کی کتنی کے برابر اور آپ
کے کلمات کی سیاہی کے برابر اور آپ کے عرش کے وزن کے برابر اور
آپ کی خوشنودی کے مطابق۔

③ حضرت عبد اللہ بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آخر حضرت ﷺ نے شکر کے یہ کلمات تلقین فرمائے۔

اللہم ما اصْبَحَ لِنِي مِنْ يَعْمَلٍ اُوْ بِأَخِدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ
وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔
اے اللہ! مجھے یا آپ کی تخلوق کے کسی اور فرد کو بھی فتحت ملے وہ تنہ آپ
کی طرف سے ہے۔ آپ کا کوئی شریک نہیں۔ پس تعریف آپ ہی کی
ہے اور شکر آپ ہی کا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ ”جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت کہے۔ اس نے اپنے اس
دن کا شکر ادا کر دیا اور جو شخص یہ کلمات شام کے وقت کہے۔ اس نے اپنی اس رات کا
شکر ادا کر دیا۔“ (نسائی وابودہ وابودہ)

(۸) صبر: اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں میں تم کے عالم پیدا کئے ہیں ایک وہ عالم
جس میں خوشی ہی خوشی یا آرام ہی آرام ہے۔ غم اور تکلیف کا کوئی شاہراہ نہیں یہ جنت کا
عالم ہے۔ دوسرا وہ جس میں تکلیف ہی تکلیف اور غم ہی غم ہے۔ اس میں خوشی اور آرام
کا کوئی شاہراہ نہیں۔ یہ دوزخ کا عالم ہے اور ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اور

غم بھی راحت بھی ہے اور تکلیف بھی --- اور یہ عالم دنیا ہے۔ لہذا اس دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسا انسان ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جسے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ انسان خواہ کتنا ہی دولت مند ہو۔ کتنا ہی با اختیار ہو۔ کتنا ہی نیک اور متقدم ہو۔ اسے اس دنیا میں خوشی کے ساتھ غم سے اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور سابقہ پیش آئے گا۔ بڑے بڑے پیغمبر بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں۔

لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا صدمہ نہ پہنچے تو وہ اس دنیا کی حقیقت ہی سے جاہل ہے۔ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کم اور زیادہ کافر ق ضرور ہو سکتا ہے لیکن تکلیف اور صدموں سے بالکلیہ نجات اس دنیا میں ممکن نہیں۔

قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟

لہذا اس دنیوی زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں تکلیفوں اور غمتوں سے سابقہ ضرور پیش آتا ہے اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے ہر وقت جا بجا اپنے غموں کا دکھڑا روتا رہے اور اپنی تقدیر کا گھنے ٹکوہ کرے۔ تب بھی اسے غموں سے بالکلیہ نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ ہمیشہ تکلیف کی ٹکٹکن کا شکار رہے گا دوسرے اس بے صبری کا بہت بڑا نقصان یہ ہو گا کہ یہ تکلیفیں جو اس کے لئے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی تھیں ان کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔

اس کے برعکس ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ یہ چند روزہ دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو بھی مکمل چھٹکارا نہیں مل سکتا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خواہ اس کی حکمت ہماری

سچھ میں آئے یا نہ آئے۔ لہذا مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرنے کی بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہئے۔ اگرچہ اس تکلیف دہ واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے۔ اس صدمے کی وجہ سے میرا دل بھی اندر رہا ہے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے؟ میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے۔ اسے میرے حق میں بہتر بنا دیں۔ میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرمادیں اور آئندہ مجھے ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھیں جو مجھے بیتاب کرنے والی ہوں۔

اس شخص کی اسی سوچ کا نام ”صبر“ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے بے چینی میں کمی آتی ہے دل کو قرار نصیب ہوتا ہے اور دوسرا طرف جو تکلیف پہنچی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے۔

قرآن کریم کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

بلاشبہ صبر کرنے والوں کا ثواب بے حساب دیا جائے گا۔

یاد رکھئے کہ کسی تکلیف کے موقع پر دل میں صدمہ پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں بلکہ تکلیف اور صدمے کے موقع پر بے اختیار جو رونا آجائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں، بے صبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ شکایت شروع کر دے اگر دل میں صدمے کی آگ سلگ رہی ہے آنکھوں سے آنسو بہرہ ہے ہیں، طبیعت پریشان ہے بار بار رونا آ رہا ہے۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان رکھتا ہے تو اسی کا نام ”صبر“ ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر کا وعدہ ہے۔

اس "صبر" کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دل میں صدمہ پیدا ہو انسان زبان سے کہے کہ:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

جو لوگ صدمے کے موقع پر یہ کلمہ زبان سے کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ.

ایسے ہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔

لہذا بزرگانِ دین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ "صبر" ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس صبر کی عبادت کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے تجھی انسان صبر کرے اور إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں طبیعت کے خلاف پیش آتی رہتی ہیں ان پر بھی انا للہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔

حضرت امام سلمہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا أَصَابَتْ أَخْذَنُكُمْ مُصِيبَةً فَلَا يُقْبَلُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْبِطُ مُصِيبَتِي وَآجِزْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي
خَيْرًا مِنْهَا.

یعنی جب تم میں سے کسی کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ: یا اللہ! میں اس تکلیف پر ثواب کا طلب کار ہوں۔ مجھے اس پر اجر عطا فرمائیے اور اس کی جگہ مجھے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے۔ (ابوداؤ نبأب الاسترجاع)

نیز حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ﷺ کے سامنے چانگ گل ہو گیا تو آپ نے اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ اخ پڑھنا چاہیے اور اس طرح روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات پر ہر مرتبہ "صبر" کی عبادت کا ثواب ملتا ہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کاشا لگ گیا۔ دام کسی چیز سے الجھ گیا۔ پاؤں پھسل گیا۔ گھر میں بھلی چالی گئی۔ کسی ناگوار واقعے کی خبر کان میں پڑ گئی۔ کوئی چیز گم ہو گئی۔ غرض اس چیزے ہر موقع پر اناللہ پڑھتے رہنا چاہیے اور ایک مرتبہ دل میں اس بات کا اعتقاد بھالینا چاہیے کہ ہر ناگوار واقعے کے پچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیس اسی کا نام "صبر" ہے اور اس پر مسلسل بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔

ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا "صبر" کے خلاف نہیں ہے اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی "صبر" کے خلاف نہیں۔ مثلاً یہاں آئی تو اس کا علاج کرنا "صبر" کے خلاف نہیں، بے روزگاری ہوئی تو روزگار کی تلاش صبر کے منافی نہیں بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی بلکہ تکلیف کی شدت میں کراہنا بھی صبر کے خلاف نہیں کیونکہ صبر کی حقیقت صرف وہ ہے جو اور پر بیان کی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض اور شکوہ نہ ہو اور وہ

زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا رہے۔

کہنے کو یہ ایک مختصر عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بیان اس پر جواہر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کا تصور بھی اس وقت ہمارے لئے ممکن نہیں ہے۔

(۸) "بِسْمِ اللَّهِ" سے ہر اہم کام شروع کرنا: ہر قابل ذکر کام کو "بِسْمِ اللَّهِ" سے شروع کرنا ان اسلامی شعائر میں سے ہے جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔
آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

كُلُّ أَفْرِذُى يَأْلِ لَمْ يَنْدَا فِيهِ يَسْمُ اللَّهُ فَهُوَ أَبْغُ.

ہر وہ اہم کام جسے بِسْمِ اللَّهِ سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص اور ادھورا ہے۔

آنحضرت ﷺ کی سنت یہ ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بِسْمِ اللَّهِ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے بِسْمِ اللَّهِ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، بلکہ چلتے ہوئے سواری کوٹھوکر لگ جائے یا خود اپنے آپ کوٹھوکر لگ جائے تب، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بلکہ بیت الحلااء میں داخل ہونے سے ذرا پہلے، اور وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، کپڑے پہننے وقت، جو تے پہننے وقت، کوئی کتاب پڑھنے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھنے وقت، اپنے روزگار کا کام شروع کرنے سے پہلے، کسی سے کوئی نیا معاملہ کرنے سے پہلے غرض ہر تدبیل شدہ حالت پر بِسْمِ اللَّهِ شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح خواتین جب کھانا پکانا شروع کریں تو اس وقت بِسْمِ اللَّهِ پڑھیں۔ کھانے میں کوئی چیز ڈالیں تو بِسْمِ اللَّهِ پڑھ کر ڈالیں، کھانا چننے کے لئے ٹکالیں تو بِسْمِ اللَّهِ پڑھ کر نکالیں۔ کوئی کپڑا سینا یا بنانا شروع کریں تو بِسْمِ اللَّهِ سے

شروع کریں بچے کو کپڑے پہننا میں تو بسم اللہ پڑھ کر پہننا میں اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا سکھا میں غرض اس طرح اپنے روزمرہ کے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محنت اور وشواری کچھ نہیں اور ذرا دھیان دینے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے بلکہ اس عمل کی برکت سے یہ سارے کام جو بظاہر دنیوی کام نظر آتے ہیں بذات خود عبادت بن جاتے ہیں۔

ایک کافر بھی دنیا کے کام انجام دیتا ہے اور ایک مومن بھی، لیکن دونوں میں اتنا زبردست فرق ہے کہ کافر غفلت کی حالت میں یہ سب کام کرتا ہے اور مومن بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تجھیل نہیں اور اس اعتراف کے نتیجے میں اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔

”بسم اللہ“ کے فضائل پر احرف کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے ”بسم اللہ کے فضائل و مسائل“ کا مطالعہ منفرد ہو گا۔
(۱۰) پہلے سلام کرنا: مسلمانوں کو سلام کرنا بھی ان اسلامی شعائر میں سے ہے۔

جن سے ایک مسلمان کی شاخت ہوتی ہے اور اس کے بہت سے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور سے کسی مسلمان کو سلام کی ابتداء کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے کی ابتداء کرے۔“ (ابوداؤ)

یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ان ہی لوگوں کو سلام کیا جائے جو جان پہچان والے ہوں بلکہ جن کو انسان پہچانتا ہو، میکن ان کا مسلمان ہونا معلوم ہواں کو سلام کرنا

بھی بہت ثواب ہے۔

ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ مسلمان کے لئے کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے جو اعمال شمار کرائے۔ ان میں یہ بھی تھا کہ ”لوگوں کو سلام کرنا چاہیے تم انہیں پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔“ (بخاری و مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بھی بھی وہ گھر سے باہر صرف اس غرض سے نکلا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے گا اسے سلام کریں گے اور اس طرح ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو گا۔ (موطا امام بالک)

لیکن حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کثرت سے سلام کیا جائے۔ ہر نظر آنے والے شخص کو سلام کرنا مقصود نہیں کیوں کہ عملاً ایسا ممکن بھی نہیں ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ (الاداب الشرعیہ لابن مصلح ص ۲۲۲ ج ۱)

یہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی شخص باہر سے آئے تو گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے خادم خاص حضرت اُنسؓ سے فرمایا تھا:

”بیٹے! جب اپنے گھر میں داخل ہو تو ان کو سلام کرو یہ عمل تمہارے اور

تمہارے گھر والوں دونوں کے لئے باعث برکت ہو گا۔“ (ترمذی)
بلکہ اگر کسی خالی گھر میں داخل ہوں تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور نیت یہ کی جائے کہ یہ سلام فرشتوں کو کیا جا رہا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ایسے موقع پر ”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ کہا کرتے تھے۔ (الاداب الشرعیہ لابن مصلح ص ۲۲۲ ج ۱)

حدیث میں اس بات کی بھی ترغیب آئی ہے کہ سلام واضح لفظوں میں اس طرح کیا جائے کہ وہ سمجھ میں آئے اور اگرچہ سلام کی سنت صرف ”السلام علیکم“ کہنے

سے ادا ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ”ورحمة اللہ و برکاتہ“ بھی بڑھایا جائے تو زیادہ ثواب ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے ”السلامُ علَيْکم“ کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اور فرمایا ”وَس“ (یعنی سلام کرنے والے کو دس نیکیاں حاصل ہوئیں۔) پھر ایک اور صاحب آئے انہوں نے کہا ”السلامُ علَيْکم وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ“ آپ نے جواب دیا اور فرمایا ”وَس“ (یعنی سلام کرنے والے کو تیس نیکیاں ملیں) پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا ”السلامُ علَيْکم وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ“ آپ نے جواب دے کر فرمایا ”وَس“ (یعنی انہیں تیس نیکیوں کا ثواب حاصل ہوا) (ابوداؤ و ترمذی۔ جامع الاصول ص ۶۵۴۰۱)

یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ سلام کرنا اس وقت سنت ہے جب کوئی شخص اپنے کسی کام میں مشغول نہ ہو اور یہ اندازہ ہو کہ سلام کرنے سے اس کے کام میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس کے کام میں خلل آنے کا اندریشہ ہو تو ایسے وقت میں سلام کرنا درست نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص تلاوت یا ذکر کر رہا ہے یا کسی مریض کی تیمارداری میں مشغول ہے یا مطالعہ کر رہا ہے یا کسی اور ایسے کام میں لگا ہوا ہے جس میں توجہ ہٹنے سے کام کا نقصان ہونے کا اندریشہ ہے تو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے سلام کرنا درست نہیں۔

اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں۔ تو ایسے میں بھی بولنے والے یا سننے والوں کو سلام نہیں کرنا چاہئے۔

البتہ اگر لوگ خاموش بیٹھے ہوں اور کوئی شخص ان کے پاس سے گزرے یا مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بس ایک مرتبہ سلام کر لے اور حاضرین میں سے کوئی ایک بھی جواب دے تو سلام کی سنت اور سلام کے جواب کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ سلام کا آغاز کرنا سنت ہے لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے تو گنہگار ہو گا۔

نیز جب کسی کا خط آئے اور اس میں "السلام علیکم" لکھا ہوا ہو تو پڑھتے وقت ہی سلام کا جواب دے دینا چاہئے۔ (شرح مسلم نوی)

(۱۱) بیمار پر سی: بیمار شخص کی عیادت (بیمار پر سی) بھی بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے اور آنحضرت ﷺ نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیمار پر سی بھی داخل ہے بعض فقہاء نے اسے واجب تک کہا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ سنت ہے۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پر سی کرنے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔" (صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلوٰۃ و تنقی کتاب ابی حیان)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنے ہے کہ:

"جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ شام کے وقت کسی کی عیادت کو جاتا ہے تو اگلی صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اور اس کو جنت

کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔” (ترمذی۔ کتاب البخاری صدیق ۹۷۹)

آنحضرت ﷺ کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی بیمار پر ہی کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔

عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے بشرطیکہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو اگر تکلیف کا اندریش ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے۔ ایسے میں تیارداروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔

آنحضرت ﷺ نے بیمار کی عیادت کے وقت سات مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ
وَهُوَ اللَّهُ جُو خُودُ عَظِيمٌ هُوَ أَوْ عَظِيمُ عَرْشٍ كَالْمَالِكُ هُوَ مِنْ إِنْ سَأَلْتُ كُرْتَا
بُوْلُ كَوْدُ تَجْهِيْسٍ شَفَاعَ عَطْفَرْمَايَ.

آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت کا وقت ہی نہ آچکا ہواں کو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفاعة عطا فرمادیتے ہیں۔ (ابوداؤد کتاب البخاری ترمذی کتاب الطب)
آنحضرت ﷺ مریض کی عیادت کے وقت یہ کثرت یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔

أَذِّهِبْ إِلَيْكَ النَّاسُ رَبِّ النَّاسِ وَأَشْفِيْ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شَفَاءَ إِلَّا
شَفَاءُكَ شَفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا.

ایے تمام لوگوں کے پروردگار تکلیف کو دور فرمادیجئے اور شفاعة عطا فرمائیے آپ شفاذینے والے ہیں آپ کے سوا کوئی شفاذینیں دے

سلک۔ ایسی شفادت بجھے جو بیماری کا کوئی حصہ نہ چھوڑے۔

نیز بیمار کو دیکھ کر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے۔

لَا يَأْمُسْ، طَهُورٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ.

تمہارا نقصان نہ ہو (یہ بیماری) انشاء اللہ تمہارے لئے پاکی کا موجب ہوگی۔

لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار پر سی کی بیان کی گئی ہے۔ اس سے زیادہ تاکید اس بات کی کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جس عیادت سے بیمار یا تمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے اس سے ثواب کے بجائے گناہ کا شدید خطرہ ہے۔

چنانچہ اگر مریض کے لئے کسی شخص سے ملاقات مضر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسے میں باہر ہی باہر سے حال معلوم کر کے آجائے اور دعا کرنے سے عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مریض کو جانتے کی چند اس ضرورت نہیں ہے۔ اگر مریض کا دل خوش آرنا مقصود ہو تو تمارداروں سے کہہ دیا جائے کہ وہ کسی مناسب وقت پر مریض کو اطلاع کر دیں کہ فلاں شخص آپ کی عیادت کے لئے آیا ہوا اور آپ کے لئے دعا کرتا ہے۔

ایسی طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لئے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دریغہ نہ بیٹھے۔ بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے کیونکہ زیادہ دریغہ نہ سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جس بے تکلف شخص کو خود مریض اپنی تسلی یادل بسکی کے لئے بٹھانا چاہے۔ اس کے بیٹھنے میں کوئی مضاائقہ نہیں ہے۔

عیادت کے لئے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آرام یا دیگر معمولات میں خلل آئے لہذا تمارداروں سے پہلے ہی پوچھ لیتا چاہئے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہو گا؟

(۱۲) نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت: کسی مسلمان کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جا کر تدفین میں شرکت کرنے کی بھی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے بلکہ اس کو آنحضرت ﷺ نے مسلمان کا حق قرار دیا ہے کہ اس کے مرنے پر نماز جنازہ میں شرکت کی جائے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جایا جائے۔

اگرچہ نماز جنازہ میں شرکت اور جنازے کے ساتھ قبرستان جانا فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ ایسا کر لیں تو باقی مسلمانوں سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جنازے میں شرکت نہ کرنے سے گھنگار نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی شرکت کرے تو اس کا بہت ثواب ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "جو شخص کسی جنازے میں نماز پڑھے۔ اس کو ایک قیراط ملے گا اور جو اس کے پیچے جائے یہاں تک کہ اس کی تدفین مکمل ہو جائے تو اس کو دو قیراط ملیں گے جن میں سے ایک احد کے پہاڑ کے برابر ہو گا۔"

علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتوں اور وہاں ملنے والے اجر و ثواب

یہ الفاظ جامع ترمذی کی روایت میں آئے ہیں (ترمذی کتاب الجنازہ حدیث ۱۰۳۹ باب ۱۳۹) لیکن اصل حدیث بخاری اور مسلم میں بھی مردی ہے۔

کا چونکہ دنیا میں صحیح تصور ممکن نہیں ہے اور نہ ان کو تعبیر کرنے کے لئے انسان کے پاس صحیح الفاظ ہیں۔ اس لئے آنحضرت ﷺ انسانوں کی بمحض سے قریب لانے کے لئے ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو دنیا کے معاملات میں رائج اور مشہور ہیں۔ چنانچہ آپ نے جنازے کی شرکت کے ثواب کو ”قیراط“ سے تعبیر فرمایا ہے جو سونے چاندی کا ایک وزن ہوتا تھا لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ اسے دنیا کے قیراط کی طرح نہ سمجھا جائے۔ وہ اپنی عکت میں احد پیارا کے برابر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے پر ثواب الگ ہے اور جنازے کے ساتھ جا کر تدقین میں شرکت کا ثواب علیحدہ ہے اور دونوں بڑے عظمِ ثواب ہیں۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”جو شخص (جنازہ اٹھنے سے پہلے) میت کے گھر جائے اُس کو ایک قیراط ملے گا، پھر اگر جنازے کے پیچے چلے اسے ایک اور قیراط پھر اگر وہ اس پر نماز پڑھے تو ایک اور قیراط، پھر اگر تدقین تک انتظار کرے تو ایک اور قیراط۔“ (ثوبانیہ ۱۹۳، حج ۱۴۰۷ھ، بحوالہ مندرجہ ذیل)

جس کے معنی یہ ہیں کہ چاروں اعمال الگ الگ نیکیاں ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر علیحدہ ثواب ہے اور ہر ثواب بہت عظم ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی جب حضرت ابو ہریرہؓ کی معرفت کے انہیں معلوم ہوئی اور حضرت عائشہؓ نے بھی اس کی تصدیق کی تو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے حضرت سے فرمایا:

”ہم نے تو بہت سے قیراط یقیناً ضائع کر دیے۔“ (ترمذی)

نماز جنازہ میں بہت سے لوگ رسما شریک ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات نماز جنازہ کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا۔ ذرا سی توجہ سے نماز کا طریقہ سیکھ لیتا چاہیے۔ اور

شرکت میں رسم کی پابندی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کرنی چاہیے۔ ان شاء اللہ اس پر بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ اوپر گذرانہ جنازہ کے بعد جنازے کے پیچے جمل کراس کی تدفین میں شرکت ایک مستقل نیک عمل ہے اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ عمل نظی نماز سے بھی افضل ہے۔ (فتح الباری ص ۳۶۷ ج ۳ بحول عبد الرزاق)

(۱۳) تعزیت اور مصیبت زدہ کی تسلی: کسی شخص کے انتقال پر اس کے گھر والوں سے تعزیت کرنا اور اپنے قول و فعل سے ان کی تسلی کا سامان کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت (تسلی) کرے اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس مصیبت زدہ کو اس مصیبت پر ملتا ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب المذاکر حدیث ۱۰۷۳)

واضح رہے کہ ”تعزیت“ کا مطلب بعض لوگ اخہار غم سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے میت کے گھر والوں کی تسلی کا سامان کرنے کی بجائے اتنا انہیں صدمہ یا دلا دلا کر مزید غم میں بٹلا کرتے ہیں۔ حقیقت میں ”تعزیت“ کے معنی ”تسلی دینے“ کے ہیں لہذا ہر دہ طریقہ اختیار کرنا ”تعزیت“ میں داخل ہے۔ جس سے غم زدہ افراد کی ڈھارس بند ہے۔ جس سے انہیں قرار آئے۔ جس سے ان کا دل بیٹھے اور ان کے صدے کے احساس کی شدت کم ہو۔

اور تسلی دینے کا یہ ثواب صرف کسی کے انتقال ہی کے موقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اوپر کی حدیث میں ہر مصیبت زدہ کو تسلی دینے کا بھی وہی اجر و ثواب

یہاں بیان فرمایا گیا ہے لہذا جس کسی شخص کو کوئی بھی تکلیف یا صدمہ پہنچا ہو تو اس کو تسلی دینے اور اس کی تسلی کا سامان کرنے کا بھی وہی اجر و ثواب ہے جو اس شخص کو اس تکلیف یا صدمے پر رہا ہے۔

(۱۲) اللہ کے لئے محبت کرنا: کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر محبت رکھنا بھی بڑا عظیم الشان عمل ہے جس پر بہت اجر و ثواب کے وعدے کئے گئے ہیں۔ ”اللہ کے لئے محبت کرنے“ کے معنی یہ ہیں کہ کسی سے کوئی دینیوی مفاد حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ بلکہ یا تو اس سے اس لئے محبت کی جائے کہ وہ زیادہ دیندار مقنی و پرہیزگار ہے یا اس کے پاس دین کا علم ہے یا وہ دین کی خدمت میں مشغول ہے یا اس لئے محبت کی جائے کہ اس سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ مثلاً والدین۔

اسی محبت کو احادیث میں ”حب فی الله“ (اللہ کے لئے محبت) کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”الله تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سامنے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے سامنے میں رکھوں گا۔“

(صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلد)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ:

”اللہ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کریں گے۔“

(جامع ترمذی۔ کتاب الرحم)

ابودریس خولانیؓ مشہور تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں جامع دمشق میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ ”بخدا مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔“ انہوں نے بار بار مجھ سے تم دے کر پوچھا کہ کیا واقعی تمہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ سے محبت ہے؟ جب میں نے ہر بار اقرار کیا تو انہوں نے میری چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا:

”دشخبری سنو! میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کو لازمی طور پر حاصل ہوگی جو میری خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے لئے خرچ کرتے ہیں۔“ (موطأ امام الحسن۔ کتاب اشر)

اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا چونکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ عی کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس پر اللہ تعالیٰ سے محبت کا اجر و ثواب ملتا ہے اور اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ان سے پوچھا کہ ”تم نے اس کے لئے کیا تیاری کر لگی ہے؟“ عرض کیا کہ تیاری تو کچھ نہیں۔ البتہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں: آپ نے فرمایا: ”تم جس سے محبت کرتے ہوئے کے ساتھ ہو گے۔“

حضرت انسؓ (جو اس حدیث کے راوی ہیں) فرماتے ہیں کہ تمہیں

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور چیز سے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ مجھے آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہیں ہیں۔” (صحیح بخاری، کتاب الادب، باب علامۃ الحب فی اللہ)

اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کسی سے محبت رکھنا بہت فضیلت کا عمل ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔

اس نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہمیشہ اللہ کے لئے محبت رکھنی چاہیے اور اس نیت سے رکھنی چاہئے کہ اس محبت کی برکت سے مجھے بھی نیکی کی توفیق ہو اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔

أَحَبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعْلَّ اللَّهَ يَؤْذِقُنِي صَلَاحًا
میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیکوں میں سے نہیں ہوں
شاپید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمادیں۔

حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ”جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے بھائی کو بتا دے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔“

(ابوداؤد، کتاب الادب، درزہ کتاب الزہد)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضورؐ کے پاس بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک اور شخص وہاں سے گزر رہی تھے ہوئے شخص نے کہا کہ ”یا رسول اللہ! مجھے اس شخص سے محبت ہے۔“ آپؐ نے فرمایا کہ ”کیا تم نے اسے بتا دیا ہے؟“ اس نے کہا ”نہیں“

آپ نے فرمایا ”اسے بتا دو۔“ وہ شخص اٹھا اور جانے والے کے پاس بیٹھ کر اس نے کہا۔ ”میں تم سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں“ اس نے کہا ”جس اللہ کے لئے تم مجھ سے محبت کرتے ہو ؎ خدا کرے کہ وہ تم سے محبت کرے۔“

(۱۵) کسی مسلمان کی مدد کرنا: کسی مسلمان کا کوئی ضروری کام کرو دینا یا اس کے کام میں مدد کرنا یا اس کی کوئی پریشانی دور کر دینا بھی ایسا عمل ہے جس پر آنحضرت ﷺ نے بہت بڑے اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخْبَيْهُ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُشْلِيمٍ كُرُبَّةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرُبَّةً مِنْ كُوبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کرئے اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس سے قیامت کی بے چینیوں میں سے کوئی

بے چینی دور فرمادیتے ہیں۔ (ابوداؤد۔ کتاب الادب۔ باب المواتاة)

کسی شخص کو راستہ بتا دینا، کسی کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر دینا غرض خدمت خلق کے تمام کام اس حدیث کی فضیلت میں داخل ہیں؛ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ.

لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔

لہذا خدمت خلق کا ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس کے موقع حللاش کرنے

چاہئیں۔ اس سے انسان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم سے بچانے کی امکانی کوشش ہر مسلمان کا فرض ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا یا وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے۔“ (ترمذی البر و الحدائق)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ:

”جس جگہ کسی مسلمان کی بے حرمتی کی جا رہی ہو اور اس کی آبرو پر دست درازی ہو رہا ہو تو مسلمان اس شخص کو بے یار و مددگار چھوڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جہاں وہ مدد کا خواہش مند ہو گا اور جس جگہ کسی مسلمان کی بے آبروئی یا بے حرمتی ہو رہی ہو تو مسلمان اس کی مذکوری کے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ اس کی مذکوریں گے جہاں وہ مدد کا خواہش مند ہو گا۔“

(ابوداؤ ذا ادب)

مسلمان کی مدد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی جگہ اس پر غلط الزامات لگائے جائے ہوں یا غلط باتیں اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہوں تو ان الزامات کا جائز دفاع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ ذَبَّ عَنْ عَوْزِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

جو شخص اپنے کسی بھائی کی آبرو کا دفاع کرے اللہ تعالیٰ اس کے چرے

سے جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔ (ترمذی۔ البر و الحدیث باب ۲۰)

(۱۶) جاائز سفارش کرنا: کسی مسلمان کے لئے جائز سفارش کرنا بھی بڑے ثواب

کام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يُكْنِنُ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا.

جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔

اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

إِشْفَعُوا تُؤْجِرُوا.

سفارش کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ (ابوداؤ و نسائی)

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ تشریف فرماتھے۔ ایک شخص نے آپ سے کچھ فرمائش کی۔ آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ (ان کی) سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ ” (بخاری۔ کتاب الادب)

اچھی سفارش بذاتِ خود نیک عمل ہے۔ خواہ متعلقہ شخص کا کام اس سفارش سے بن جائے یا نہ بنے اور اگر کام بن گیا تو امید ہے کہ انشاء اللہ وہ را ثواب ملے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ سفارش جائز مقصود کے لئے ہو اور اس سے کوئی ناجائز یا نا حق کام نکلا وانا مقصود نہ ہو کیوں کہ ناجائز سفارش کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ لہذا سفارش کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیما واجب ہے کہ جس شخص کی سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہے اور جس کام کے لئے کی جا رہی ہے وہ جائز کام ہے۔

اسی طرح سفارش کے معاملے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی جا رہی ہے اس پر کوئی نادیجی بوجوہ نہ پڑنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا

چاہئے کہ وہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اگر کام اس کے اختیار میں نہیں ہے تو سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اندر یہ ہے کہ سفارش سے اس کو شرمندگی ہو گی۔ اور اگر یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں حتی انداز میں سفارش نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ صراحت کرو یعنی ضروری ہے کہ اگر یہ کام آپ کے اختیار میں ہو تو کرو میں۔

نیز اگر کوئی کام کسی شخص کے اختیار میں بھی ہو تو باوقات وہ کچھ خاص قواعد و ضوابط یا ترجیحات قائم کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی سفارش جتنی طور سے کرنے کے بجائے ایسے انداز سے کرنی چاہیے جس سے اس پر اپنے قواعد یا ترجیحات کے خلاف کوئی کام کرنے کا ایسا دباؤ نہ پڑے جس سے وہ بوجھ گھوسیں کرے۔

آج کل عموماً سفارش کرتے ہوئے بس یہ بات تو ذہن میں رکھ لی جاتی ہے کہ سفارش کرنا ثواب ہے۔ لیکن سفارش کے جواہ کام اور آداب شریعت نے مقرر فرمائے ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ خاص طور سے اس بات کی تو بہت کم لوگ رعایت کرتے ہیں کہ جس شخص سے سفارش کی جا رہی ہے اس کو تکلیف نہ ہو لہذا یہ بات بھی نہ بھولنی چاہئے کہ شریعت میں ہر چیز کے آداب و احکام ہیں اور ان کی رعایت ضروری ہے۔ کسی ایک مسلمان کو فائدہ پہنچانے کے لئے کسی دوسرے شخص کو ناوجہی میں تکلیف میں ڈالنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

(۷) کسی کے عیب کی پرده پوشی: اگر کسی مسلمان کے کسی عیب کا علم ہو جائے تو جب تک اس سے کسی دوسرے کو فقصان پہنچنے کا اندر یہ شہو اس کی پرده پوشی بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا يَسْتُرُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَرَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 جو کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت
 کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ (صحیح مسلم۔ کتاب البر والصلوٰۃ)
 اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ
 نے ارشاد فرمایا:

مَنْ رَأَىٰ عَوْزَةً فَسَرَّهَا، كَانَ كَمْنَ أَخْيَاءً مُؤَدَّةً.
 جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے
 جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو چھپا لے۔

(سنن ابی داؤد۔ کتاب الادب۔ مسند رک حاکم ص ۲۸۸)

”پردہ پوشی“ یا ”عیب چھپانے“ کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اس کا ذکر
 نہ کرے اور اس عیب کی تشهیر نہ کرے۔ لیکن اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتیں یاد رکھنی
 ضروری ہیں۔

① کسی کے عیب کو چھپانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے لہذا اگر کوئی
 شخص اس عیب کے بارے میں سوال کر لے تو اذل تو جواب کوٹلانے کی کوشش کرے
 اور اگر جواب دینا پڑ جائے تو کوئی بات خلاف واقعہ نہ کہے۔

② کسی کے عیب کی پردہ پوشی اسی وقت جائز ہے جب اس عیب کا اثر اس
 شخص کی ذات کی حد تک محدود ہو لیکن اگر اس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچنے کا
 اندریشہ ہوتا مغلظہ شخص کو اس عیب کے بارے میں بتا دینا جائز بلکہ موجب ثواب ہے۔
 بشرطیکہ نیت دوسرے کو نقصان سے بچانے کی ہو۔ سوا کرنا مقصد نہ ہو مثلاً ایک شخص کی
 عادت ہے کہ وہ لوگوں کا پیسہ دھوکے سے لے کر کھا جاتا ہے یا قرض لے کر واپس

کرنے کا اہتمام نہیں کرتا اور ناداوقف لوگ اس کے ساتھ معاملہ کر کے نقصان ابھاسکتے ہیں تو جن لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو انہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا ہے اور اڑکی والے اس کے حالات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صحیح صورت حال سے باخبر کر دینا درست ہے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں نیت انہیں نقصان سے بچانے کی ہوئی چاہئے۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس سے معاشرے میں برائی پھیلنے کا اندیشہ ہے تو متعلقہ حکام کو اس سے باخبر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ باخبر کرنا موجب ثواب ہے بشرطیکہ نیت اصلاح معاشرہ کی ہو۔ مجرم سے ذاتی انتقام لینا یاد شفی زکالتا مقصود نہ ہو۔

(۱۸) نیکی کی ہدایت کرنا: کسی دوسرے شخص کو کسی نیک کام پر آمادہ کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر ایک شخص کی کوشش سے کوئی دوسرًا شخص کسی نیک کام پر تیار ہو جائے تو اس نیک کام کا جتنا ثواب کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس نیک کام میں اس کی رہنمائی کی۔

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص کسی نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کے کرنے والے کو ملے گا۔“ (صحیح مسلم)

اور نیک کام کی طرف یہ رہنمائی اگر اجتماعی شکل میں ہو۔ یعنی بہت سے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دی جائے اور اس ترغیب کے نتیجے میں وہ کام کر لیں تو سب لوگوں کی نیکیوں کا ثواب رہنمائی کرنے والے کو ملتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْوَرِ مَنْ تَبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثْمِ مِثْلُ أَثْمِ مَنْ تَبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثْمِهِمْ شَيْئًا.

جو شخص ہدایت کی دعوت دے۔ اس کو ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس کی ہدایت پر عمل کریں اور ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی، اور جو شخص کسی گمراہی کی دعوت دے اس کو ان تمام لوگوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ (صحیح مسلم)

یہ ثواب تو اس وقت ہے جب دوسرا شخص رہنمائی کرنے والے کی بات پر عمل کر لیکن اگر بالفرض وہ عمل نہ بھی کرے تو بھی انشاء اللہ خیر خواہ نصیحت کا ثواب ملے گا کیونکہ حدیث میں ہے۔

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ
نِكَارًا حُكْمُ دِينِنَا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ (صحیح مسلم)

ہذا جب کسی شخص کو کوئی اچھی بات بتانے یا کسی نیکی کا مشورہ دینے کا موقع ملے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کام کے لئے طریقہ ایسا اختیار کیا جائے۔ جس سے سننے والے کی رسوائی یادل آزاری نہ ہو۔ مجمع میں روک نوک نہ کی جائے اور انداز متلکبرانہ اور حقارت آمیز نہ ہو بلکہ تہائی میں ایسے نرم سمجھ کے ساتھ بات کہی جائے جس میں دل سوزی درموندی اور خیر خواہی

نمایاں ہو اس کے لئے ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جس میں سنتے والے کا ذہن مشوش نہ ہو غرض حکمت اور خیر خواہی کا حافظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

أَذْعُ إِلَيْ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

”اپنے پروار دگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی بصیرت کے ساتھ
دعوت دو۔“

(۱۸) صدقہ و خیرات: صدقہ و خیرات کی کثرت بھی انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے، گناہوں کی معافی اور دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کا ایک موثر ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں صدقہ اور بھلانی کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کے بہت فضائل و اوردو ہوئے ہیں جن کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کانڈھلوی قدس سرہ نے ”فضائل صدقات“ کے نام سے اس موضوع پر جو کتاب تحریر فرمائی ہے وہ اس موضوع پر بہت جامع کتاب ہے اس لئے یہاں قرآن و حدیث کے بیان کردہ ان فضائل کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں جو حضرات چاہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔

لیکن یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے فضائل حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ روپیہ ہی خرچ کیا جائے۔ بلکہ ہر شخص اپنی ملکی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر کے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک بھی روپیہ ہو اور وہ اس میں سے ایک پیسہ کی تیک کام نہیں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک لاکھ روپے کا مالک ایک

ہزار روپے صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل قدر و قیمت اخلاص کی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کم سے کم مقدار کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے اور اس پر صدقہ و خیرات کے تمام فضائل حاصل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:

إِنْقُوا النَّارَ وَلُؤْ بِشِقِ تَمَرَةٍ.

جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک بھجوز کے آدھے حصے ہی کے ذریعے

کیوں نہ ہو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

یعنی اگر کسی شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کوئی اور چیز نہ ہو اور وہ آدمی کھجور ہی کسی ضرورت مند کو دے دے تو اس سے بھی صدقہ کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے اور یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی مالی حالت کمزور ہو، وہ بھی اپنے آپ کو صدقے کے فضائل سے محروم نہ ہمچیں بلکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کم سے کم خرچ کر کے بھی اس سعادت میں حصے دار بن سکتے ہیں۔

بعض لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ ایک بیسرہ بھی خرچ کرنے کے رواذ نہیں ہوتے بلکہ تمام بھلائی کے مصارف زکوٰۃ ہی سے پورے کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے لہر اس فریضے کے مصارف مخصوص ہیں۔ نیکی کے بہت سے کام ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی۔ مثلاً مسجد میں چندہ دینا وغیرہ۔ اس لئے کچھ رقم زکوٰۃ کے علاوہ بھی نیک مصارف میں خرچ کرتے رہنا چاہئے۔ اس غرض کے لئے بزرگان دین کا یہ معقول رہا ہے کہ وہ اپنی آمدی کا کچھ فی صد حصہ خیرات کے لئے

مخصوص کر لیا کرتے تھے اور جب بھی کوئی آمدی آتی، اس کا اتنا حصہ الگ کر کے ایک تھیلے یا لفافے میں رکھتے رہتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا حاتھانوی قدس سرہ تو اپنی آمدی کا پانچواں حصہ (میں فی صد) ہمیشہ اس کام کے لئے الگ کر لیا کرتے تھے۔ بعض دوسرے بزرگ بیسوال حصہ یادسوال حصہ نکال کر الگ رکھ لیتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خیرات کا مصرف سامنے آتا ہے۔ اس کے لئے سوچنا نہیں پڑتا بلکہ وہ لفافہ یاد دہانی کرتا رہتا ہے کہ میرے لئے کوئی نیک مصرف تلاش کرو اور وقت پر خیرات کرنے کے لئے پیسے کا انتقام کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی اور آسانی سے مصارف خیر میں خرچ کرنے کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔

ہر شخص اپنے مالی حالات کے پیش نظر اگر ایک مخصوص حصہ اس کام کے لئے الگ کر لیا کرے تو اجر و ثواب حاصل کرنے کا یہ سلسلہ مستقل قائم ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص پانچواں یادسوال حصہ ہی مخصوص کرے اپنے حالات کے مطابق جتنا کم سے کم حصہ بھی مقرر کر سکے۔ انشاء اللہ خیر ہی خیر ہے۔

صدقہ و خیرات میں اصل نیت تو اللہ کی خوشنودی کی رکھنی چاہئے لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ بھی رہا ہے کہ صدقہ و خیرات کا معمول رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت کچھ دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔“ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔

(۲۰) معاف کر دینا: کسی شخص کو اگر دوسرے نے تکلیف پہنچائی ہے تو اسے شریعت کی حدود میں رہ کر بدله لینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر وہ بدله لینے کے بجائے اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم

میں ارشاد ہے:

وَلَيَقُولُوا لِيُغْفِرُونَا إِلَّا تَحْبُّونَ أَن يغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

”اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور وہ لذت سے کام لیں کیا ہے“

بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں؟“

یعنی کون شخص دنیا میں ایسا ہے جس سے کوئی کوئی غلطی سرزنش علی ہو اور ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرمادیں لہذا اگر کسی بصرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ ہو جانا چاہیے کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ سے مخالف کا خواہش مند ہوں اسی طرح مجھے بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے آئت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرنے کی روش اختیار کرے اسکے اللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کی مخفہت فرمائیں گے

یہ بات متعدد احادیث سے بھی تابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابوالمنیراء رضی

اللہ عن روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَأْمِنٌ رَجُلٌ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي حَسَدِهِ فَيَسْأَلُ قِسْطَيْنِ يَهُ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ يَهُ ذَرَجَةً وَخَطَّ عَنْهُ يَهُ خَطِيئَةً.

جس کسی شخص کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمادیتے ہیں اور اس اعلیٰ کی وجہ سے اس کا گناہ معاف فرماتے ہیں۔

جامع ترمذی میں ہے کہ ایک شخص کا وانت کسی نے توڑ دیا تھا اس شخص حضرت معاویہؓ کے پاس بدلہ لینے کی غرض سے پہنچا۔ وہاں حضرت ابوالمنیراء رضی اللہ عنہ نے اس کو اور پر والی حدیث سنادی تو اس نے بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر کے کام پر مدحتا میں کو

معاف کر دیا۔ (جامع ترمذی۔ کتاب الدیات۔ حدیث ۱۳۲)

سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو معاف کرنے کے بجائے اس سے بدلے لے لیجنی اس کو بھی ولیٰ ہی تکلیف پہنچا دے تو اس سے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یا اگر کسی نے ایسی تکلیف پہنچائی ہے۔ جس کا بدلہ لینا ممکن نہیں ہے تو اس کو معاف نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کو آخرت میں عذاب ہو گا۔

یہاں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو آخرت میں عذاب ہو تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس کے برخلاف اگر اس کو معاف کر دیا تو اس سے میرے گناہ معاف ہوں گے عذاب جہنم سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرمائیں گے۔ لہذا عقل کی بات یہی ہے کہ معاف کر کے یہ فضیلت حاصل کی جائے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یا آخرت میں اس سے انتقام نہ لیا جائے اور بس! اگر کوئی شخص دوسرے کو اس طرح معاف کر دے تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس سے دل بھی کھل جائے۔ کیوں کہ دل کا کھل جانا اختیاری بات نہیں ہوتی، وہ زیادہ تر دوسرے شخص کے آئندہ رویے پر موقوف ہوتا ہے لہذا اگر دل میں اس شخص کی طرف سے انتباہ رہا اور خوشنگوار تعلقات قائم نہ ہو سکے لیکن اس شخص نے بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور تعلقات صرف حقوق کی ادائیگی (سلام کا جواب وغیرہ) کی حد تک رکھے جب بھی انشاء اللہ معاف کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

ای یہ طرح معاف کرنے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کی طرف سے آئندہ اس قسم کی تکلیف پہنچنے کا سد باب نہ کیا جائے۔ اگر اندر یہ ہو کہ وہ

شخص دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو اس کے سد باب کے لئے کوئی اقدام کرنا بھی معافی کے خلاف نہیں ہے ایسی صورت میں اپنا سابقہ حق تو معاف کر دیا جائے لیکن آئندہ اس کی تکلیف سے بچنے کے لئے با اختیار افراد سے مدد لے لی جائے تب بھی انشاء اللہ معافی کی فضیلت حاصل رہے گی۔

جب کبھی کسی شخص کے خلاف انتقام کا جذبہ پیدا ہو یہ سوچ لیتا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جب کافروں نے آپ پر پتھر بر سائے اور اس سے آپ کا چہرہ مبارک لہو لہاں ہو گیا تب بھی آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

”اے اللہ! میری قوم کو معاف کر دیجیے ان لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں

ہے۔“ (مجموع بخاری و مسلم)

(۲۱) نرم خویی: لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے جس پر بہت ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفِيقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفِيقِ مَالًا يُعْطَى
عَلَى الْعُنْفِ؛ وَمَا لَا يُعْطَى عَلَى مَاسِوَةِ.

اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں اور نرم خویی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو تندی اور سختی پر نہیں دیتے۔ (بلکہ) کسی اور چیز پر نہیں دیتے۔ (مجموع مسلم)

حضرت عائشہؓ ایک اور حدیث شیعی نقش فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشنے کی اور جس چیز سے بھی ہٹا لی جائے گی اس میں عیب پیدا کر دے گی۔ (صحیح مسلم)

نرم خوبی کا مطلب یہ ہے کہ غصے سے مغلوب ہو کر سخت الفاظ یا سخت رویہ اختیار کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرا سے نرم الفاظ اور نرم لب والجہ میں بات کی جائے۔ اگر کسی کوئوں کتاب ہو یا اس سے اختلاف کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لئے بھی ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں کھر درے پن اور درشتی کے بجائے خیر خواہی، توضیح اور دلسوی کا پہلو نمایاں ہو۔ اگر کسی چھوٹے کی تربیت کے لئے اس پر غصہ کرنا ضروری ہو تو وہ بھی صرف بعدِ ضرورت اور اعتدال کی حدود میں ہو۔

اسی طرح نرم خوبی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بات بات پر لوگوں سے الجھنے بحث کرنے یا جھگڑنے سے پرہیز کیا جائے اور لوگوں سے حتی الامکان حسن ظن کا معاملہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ جب کسی سے خرید و فروخت وغیرہ کا معاملہ کرنا پڑے تو اس میں بھی قیمت وغیرہ کے معاملے میں خدا اور بحث کا انداز اختیار نہ کیا جائے۔ اگر معاملہ قابل قبول ہو تو قبول کر لیا جائے اور قابل قبول نہ ہو تو چھوڑ دیا جائے لیکن دوسرا کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرنا اور زیچ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

رَجَمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِعَهَا إِذَا بَأَعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا أَفْتَضَى.

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرماتے ہیں جو زم خوار در گذر کرنے والا ہو۔

جب کوئی چیز بیجے اس وقت بھی جب کوئی چیز خریدے اس وقت بھی۔

اور جب کسی سے اپنے حق کا تقاضا کرے اس وقت بھی۔ (صحیح بخاری)

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ لا یا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا۔ ”میرے پروردگار! آپ نے مجھے اپنا مال دیا تھا، میں لوگوں کے ساتھ خریدو فروخت کیا کرتا تھا اور میری عادت در گذر کرنے کی تھی۔ چنانچہ مالدار کے لئے آسانی پیدا کرتا اور تنگدست کو مہلت دیتا تھا۔“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس طرز عمل کا تم سے زیادہ سُحق ہوں، پھر آپ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ”میرے اس بندے سے در گذر کرو۔“ (صحیح سلم)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے رشاد فرمایا:

مَنْ أَنْظَرَ مُغِيرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَالَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْكُمُ طَلْلَى
الْمُرْوِشِ يَوْمَ لَا ظَلَلَ إِلَّا ظَلَلَ.

جو شخص کسی تنگدست (متروض) کو مہلت دے یا اس کو قرضے میں رعایت

و دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سامنے میں رکھیں گے

جب کہ اس کے سامنے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (جامع ترمذی)

اور حضرت ابو قاتلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَ اللَّهُ مِنْ كُرْبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَيُنْفِسْ عَنْ

شیر اور قرآن عَنْهُ.

جو شخص اس بیات کو پڑ کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی بے چینیوں سے
اس کو نجات عطا فرمائیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ کسی تحدیدت کی مشکل
آسان کرنے والی اس کو قرآن میں بر عایت دے۔ (صحیح مسلم)

(۲۲) صلح کرو یعنی اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی تازع ہو تو ان کے درمیان صلح
کرو ایسا بھی نہیں ہے اجنبیوں کا کام ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:
**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوَةٌ فَالْأَخْلِقُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
أَنَّكُمْ تُرَدُّهُمُونَ.**

پاشرب تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں لہذا اپنے دو بھائیوں کے
درمیان صلح کرو ایسا کرو اور اللہ سے ذردا کر تم پر حرم کیا جائے۔

ایک اہمیت میں اور شکوہ ہے:

فَلَقُوتُوا اللَّهُ وَأَخْلِقُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ

یعنی اللہ سے ذردا ہو آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔

قرآن کریم کے ان ارشادات سے واضح ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرو ایسا
اور ان کے تعلقات کی درستی کی کوشش کرنا کتنا یک عمل ہے۔ اس غرض کے لئے
دوں کو ایک دوسرے کی الگی باتیں بیچانی چاہئیں جن سے ان کے درمیان آپس
میں محبت یا رہا اور غلامیاں دور ہوں۔ یہاں تک کہ اس غرض کے لئے ایسی باتیں
کہنا بھی باائز ہے جو بظاہر خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہوں مثلاً داؤ آدمیوں کے درمیان
رخیش ہو تو ان میں سے کسی سے یہ کہہ دیتا وہ شخص تو تمہارے لئے دعاۓ خیر کرتا
ہے۔ کوہول میں یہ نیت کر لیتا کہ ”وہ تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت کی عام دعا کرتا

ہے اور تمام مسلمانوں میں اس کا مدع مقابل بھی داخل ہے۔ اس قسم کی باتوں کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

لَيْسَ الْكَذَابُ الَّذِي يُضْلِلُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنَمِّي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا.

وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان مصالحت کرائے اور کوئی بھلانی کی بات دوسرا نہ تک پہنچائے یا کوئی بھلانی کا کلمہ کہے۔

(صحیح بخاری وسلم)

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:
يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةً.

دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ (کی طرح موجب ثواب) ہے۔ (بخاری وسلم)

لوگوں کے درمیان بغرض وعداوت پیدا کرنا ایک شیطانی عمل ہے اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی لوگوں میں پھوٹ ڈالنے سے خوشی ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ اس کو سمجھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے اس کے برخلاف اگر دو مسلمانوں کے درمیان خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں دور کر کے ان کے تعلقات کو خوشنگوار بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ انتہائی ثواب کا کام ہے۔

یہ بات خاص طور سے ان لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو ایک ساتھ رہتے ہیں نیز ساس، بہو اور نند بھادرج کے درمیان ہمارے معاشرے میں جو تباہیات ہوتے ہیں وہ عموماً اسلام کی اس تعلیم کو نظر انداز کرنے سے ہوتے ہیں۔ اگر اس تعلیم پر عمل کیا جائے

تودنیا و آخوند دنوں سور جائیں۔

(۲۳) تیمیوں اور بیواؤں کی مدد: تیمیوں اور بیواؤں کی مدد بھی بہت فضیلت کا عمل ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمِّيِّ فُلِّ إِصْلَاحٍ لَهُمْ خَيْرٌ.

لوگ آپ سے تیمیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کے حالات درست کرنا بڑی بھلائی ہے۔

اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتَمِّيِّمِ فِي الْجَنَّةِ هَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى
وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا.

میں اور تیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور نیچ کی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اشارہ فرمایا۔ (صحیح بخاری)

اس حدیث میں کسی تیم کی سرپرستی کی اتنی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی عقرت کا تصور بھی مشکل ہے۔ یعنی ایسا شخص جنت میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ اور آپ سے نہایت قریب ہو گا۔ اس انتہائی قرب کو ظاہر کرنے کے لئے آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ اس قسم کا قرب ہو گا جیسا کہ شہادت کی انگلی اور نیچ کی انگلی ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آنحضرت ﷺ نے یہ وضاحت بھی فرمادی کہ تیم کی سرپرستی کرنے والا خواہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو مثلاً مان

واداً بحاجٰٰ وغیره یا رشتہ دار شے ہو۔ دونوں صورتوں میں وہ اس اجر و ثواب کا حق دار ہو گا۔

(ریاض الصالحین ص ۱۱۸، بحوالہ مسلم)

اور یہود کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

السَّاعِيُ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِنِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَأَخْبَرَهُ قَالَ، وَكَالْقَانِيمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّانِيمِ الَّذِي
لَا يُفْطِرُ.

”جو شخص کسی یہود یا کسی مسکین کے لئے کوشش کرے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور (راوی کہتے ہیں کہ) میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو مثل بغیر کسی وقت کے نماز میں کھڑا ہو اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ نہ چھوڑتا ہو۔“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مسلمانوں کا سب سے بہتر گھروہ ہے جس میں کسی تیم سے حسن سلوک کیا جاتا ہو اور بدترین گھروہ ہے جس میں کسی تیم سے بد سلوکی کی جاتی ہو۔“ (الترغیب للحدی، ص ۲۴، بحوالہ ابن الجیج)

قرآن و حدیث تیکیوں اور یہاؤں کی مدد کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ان چند ارشادات ہی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے لہذا جب کبھی کسی تیم یا یہود کے ساتھ کسی بھلانی کا موقع ملے۔ اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے اور جس قسم کی بھلانی یا مدد کی توفیق ہو جائے اسے

غیرت سمجھتا چاہیے۔ انشاء اللہ ان فضائل میں سے حصہ ضرور ملے گا بشرطیکہ نیت دکھاوے کی نہ ہو نہ احسان جتنا اپنی نظر ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کام کیا جائے۔ جس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا چاہیے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی شکریہ یا صلح موصول نہ ہو جب بھی اس کام کو بے کار نہ سمجھے اور یہ سوچے کہ اجر اس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہو گا۔

(۲۳) اہل و عیال پر خرچ کرنا: اس دنیا میں کون ہے جو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کے انتظام کی غلرنیس کرتا؟ بعض بے حس افراد کو چھوڑ کر تقریباً ہر شخص کی سعاثی دوڑ و ھوپ کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اہل و عیال خوشحالی اور فراغت کی زندگی برقرار کریں لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پر روپیہ میسرہ خرچ کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ (جہاد) میں خرچ کرہا ایک دینار وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرہا ایک دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو دینے میں خرچ کرو اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں (بیوی، بچوں) پر خرچ کرو ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ (صحیح مسلم)

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے گھر والوں پر خرچ کرنے کو دوسرے مصارف خیر پر خرچ کرنے سے افضل قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر والوں کا نفقہ انسان کے ذمے فرض ہے اور دوسرے مصارف خیر کی نوعیت کے چیزوں اور ظاہر ہے کہ فرض کی ادائیگی کا ثواب نقل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ گھر والوں پر خرچ کرنا اس وقت زیادہ ثواب کا حامل ہے جب گھر والے

ضرورت مند ہوں لیکن اگر ان کی ضروریات مناسب طریقے سے پوری کی جا چکی
ہوں تو اس وقت دوسروں پر خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہو گا۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ یا
رسول اللہ! میرے جو بیٹے سابق شوہرا بوسلمہ سے ہیں۔ جب میں ان پر کچھ خرچ کرتی
ہوں تو کیا اس پر بھی ثواب ملتا ہے؟ حالانکہ وہ میرے ہی بیٹے ہیں اور میں انہیں ایسے
ویسے نہیں چھوڑ سکتی؟ آپ نے فرمایا ”ہاں“ تمہیں ان پر خرچ کرنے کا بھی ثواب
ملے گا۔ (بخاری وسلم)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجْزُوَتْ بِهَا حَتَّىٰ
مَاتَجْعَلَ فِي فِي إِمْرَأَتِكَ.

جو کوئی خرچ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرو اس پر تمہیں
ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ جو کھانا تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر
بھی۔ (بخاری وسلم)

ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی
جائے ضروریات پوری کرنے کے لئے اس نیت سے خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان
کے حقوق مجھ سے وابستہ فرمائے ہیں۔ اس لئے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی قسمیں میں اور
اس کو راضی کرنے کے لیے ان پر خرچ کر رہا ہوں تو ہر خرچ پر اس کو صدقے کا ثواب
ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شان کریں کہ کیاٹھکانا ہے کہ جو کام انسان خود اپنے دل کی تربی

کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہی ہے۔ اس کو بھی ذرا سے زاویہ نظر کی تبدیلی سے اتنے اجر و ثواب کا موجب بنادیا ہے کہ دوسرے صدقات اور مصارف خیر سے بھی اس کا ثواب بڑھ گیا لہذا اہل و عیال کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر خوب خوش ولی سے خرچ کرنا چاہیے اور اس میں ہاتھ اور دل کو تنگ نہ رکھنا چاہیے۔

(۲۵) والدین کے ساتھ حسن سلوک: قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید آتی ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

(الناء: ۳۶)

”اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھپراو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔“
ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

”اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ”وقت پر نماز ادا کرنا۔“ میں نے پوچھا۔ ”اس کے بعد کون سا۔؟“ آپ نے فرمایا: ”والدین کے ساتھ حسن سلوک۔“ میں نے پوچھا ”پھر کون سا؟“ آپ

نے فرمایا: ”اللہ کے راستے میں جہاد۔“ (بخاری وسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی خاطر جہاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپؐ نے پوچھا۔ ”کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا کہ ”جی ہاں دونوں زندہ ہیں۔“ آپؐ نے فرمایا ”پھر تم جاؤ اور ان کی اچھی خدمت کرو۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔“ (بخاری وسلم)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کی خدمت کی ضرورت ہو تو جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ان کی خدمت میں مشغول رہنا جہاد میں جانے سے بھی افضل ہے اور یہ واقعہ عام طور سے مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت اولیٰں قرآنیین کے باشندے تھے اور آنحضرت ﷺ کی زیارت کے لئے آنا چاہئے تھے۔ لیکن چونکہ ان کی والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے انہیں پاس آنے سے منع کر کے والدہ کی خدمت کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ آنحضرت ﷺ کی زیارت نہ کر سکے۔ لیکن والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشنا کہ بڑے بڑے صحابہؓ کرامؓ بھی ان سے دعا کرواتے تھے۔ جب حضرت فاروق عظیمؓ کے زمانے میں وہ مدینہ طیبہ آئے تو حضرت عمرؓ انہی اشتیاق کے ساتھ ان سے ملنے اور ان کی دعائیں کے لئے تشریف لے گئے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالات میں ایسا عمل ہے جس میں محنت و مشقت زیادہ نہیں۔ کیوں کہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ اس لئے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود ہی آمادہ ہوتا ہے۔ دوسری

طرف والدین کو اپنی اولاد پر جو شفقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ خود اپنی اولاد سے ایسا کام لیتا پسند نہیں کرتے جو اس کے لئے زیادہ مشکل ہو۔ بلکہ معمولی سی خدمت سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنادیا ہے کہ ایک حدیث کی رو سے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیتا بھی تو اب میں حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ غرض والدین سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”وَهُوَ شَخْصٌ ذَلِيلٌ هُوَ وَهُوَ شَخْصٌ ذَلِيلٌ هُوَ وَهُوَ شَخْصٌ ذَلِيلٌ هُوَ جُوْ جَانِيْنَ مِنْ أَهْلِ دُنْيَا“ (میں سے کسی کو یادوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔“ (سلم)

مطلوب یہ ہے کہ جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اس کے لئے جنت کمانا کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ وہ ان کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت کر کے بڑی آسانی سے جنت حاصل کر سکتا تھا لیکن جس شخص نے اس بات کی بالکل پرانیں کی وہ ذلیل ہونے کے لائق ہے۔

والدین میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا حق زیادہ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور آ کر پوچھا ”یا رسول اللہ تمام لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟“ آپ نے فرمایا۔ ”تمہاری ماں۔“ انہوں نے پوچھا۔ ”پھر کون؟“ آپ نے فرمایا ”تمہاری ماں۔“ انہوں نے پھر پوچھا۔ ”اس کے بعد کون؟“ آپ نے پھر فرمایا ”تمہاری ماں۔“ انہوں نے چوچی بار پوچھا کہ ”پھر

کون؟“ اس موقع پر آپ نے فرمایا۔ ”تمہارا باپ۔“ (بخاری و مسلم)
 اس حدیث کی بنابر علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے
 میں تین گناہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان کی پرورش میں جس قدر تکلیف
 ماں اٹھاتی ہے۔ باپ اتنی نہیں اٹھاتا۔ ماں کی تکلیفوں کا ذکر قرآن کریم نے خاص طور
 پر فرمایا ہے۔ دوسرے ماں کو باپ کے مقابلے میں عموماً خدمت کی ضرورت بھی زیادہ
 ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کو زیادہ فویت عطا فرمائی ہے۔

یوں تو والدین کی خدمت ہر حالات میں انسان کے بنیادی فرائض میں سے
 ہے لیکن خاص طور پر جب وہ ضعیف اور بوڑھے ہو جائیں تو قرآن و حدیث میں ان
 کی خدمت اور ولداری پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا إِمَّا
 يَنْلَعُنَ عَنْدَكَ الْكَبِيرُ أَخْذُهُمَا أَوْ كِلَافُهُمَا فَلَا تَقْلِيلُ لَهُمَا أَقْ
 وَلَا تَنْهَرْ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ
 الَّذِي مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔

(نبی امرائل: ۲۳۴۳)

اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو
 اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں
 تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کوچھ جائیں تو ان کو افسوس نہ کہو۔ نہ
 ان کو جھپڑ کو اور ان سے عزت کی بات کہوا اور ان پر حرم کے سبب ان کے
 آگے اپنے آپ کو پست رکھو اور یہ کہو کہ پروردگار ان پر حرم کیجیے۔ جیسے
 انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا تھا۔

بڑھاپے میں والدین کی خدمت پر اس لئے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ عموماً وہ اس حالت میں اولاد کو کوئی جسمانی یا مالی فائدہ پہنچانے کے لا اتنے نہیں رہتے۔ اس لئے بعض خود غرض لوگ ایسے وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نیز بڑھاپے میں بعض اوقات ان کے اندر چڑھاپن پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ان کی باتیں ناگوار ہونے لگتی ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ ایسے موقع پر خیال کرو کہ تمہارے بھین میں انہوں نے تمہاری خاطر زیادہ محنت اٹھائی ہے اور تمہاری نہ جانے کتنی ناز بردازیاں کی ہیں لہذا اب تمہارا فرض ہے کہ ان کے نا اٹھاؤ اور ان کی ناگوار باتوں پر صبر کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آنے دو۔

بعض مرتبہ لوگ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت اور حسن سلوک سے غافل رہتے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حسرت کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ان کی کوئی خدمت نہ کی اور اب یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس لئے ان کی زندگی ہی میں اس دولت کی قدر پہنچانی چاہیے۔

تاہم والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کا دروازہ بالکل بند نہیں ہوتا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آپؐ کے پاس آیا اور اس نے آ کر پوچھا ”یا رسول اللہ! کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ باقی رہ گیا ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟“ اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نَعَمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحْمٍ الَّتِي لَا تُؤْتَى لِأَلا بِهِمَا وَالْكَرَامُ

صدیقہما۔

”بھی ہاں ان کے حق میں دعا کرنا: ان کے لئے استغفار کرنا۔ ان کے بعد ان کے کئے ہوئے عہد کو پورا کرنا اور جن رشتؤں کا تعلق ان بھی سے ہے ان کے ساتھ صدر حمی کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔“ (ابوداؤد)

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرمادیئے ہیں جن پر ساری عمر عمل کیا جا سکتا ہے۔

(۲۶) والدین کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک: جیسا کہ کچھلی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑے ثواب کا عمل ہے اسی طرح والدین کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَبْرَزَ الْبَرَّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وَدَأْبِيهِ

بہت سی نیکیوں کی ایک نیکی ہے کہ انسان اپنے باپ کے اہل محبت سے تعلق جوڑے رکھے (اور اس تعلق کو نیچائے)۔ (صحیح مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے شاگرد عبد اللہ بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ یوں تو وہ اونٹی پر سوار تھے۔ لیکن ایک گدھا بھی ساتھ تھا جب اونٹی کی سواری سے اکتا جاتے تو کچھ دیر اس گدھے پر سواری کر لیتے تھے اتنے میں ایک دیہاتی شخص راستے میں ملا۔ حضرت ابن عمرؓ نے اس کا اور اس کے والد

کام پر چاہج اس نے بتا دیا تو آپ نے اپنا گدھا اس کو دے دیا اور اپنا عمامہ بھی
اتار کر اس کو خندہ دے دی۔ ساتھیوں نے کہا کہ وہی ان لوگ تو ذرا سی چیز سے بھی خوش
ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو اتنی قیمتی چیزیں کیوں دیں؟ حضرت عبد اللہ بن عمر
نے فرمایا کہ اس شخص کے والد میرے والد کے دوست تھے اور میں نے
آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ بے کہ ”بہت سی نیکیوں کی ایک نیکی یہ ہے کہ
انسان اپنے باپ کے کامل محبت سے تعلق جوڑے رکھے۔“ (سلم)

لہذا اپنے تمام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے
کہ والدین کے عزیز دل اور دوستوں سے تعلقات بجاوے جائیں اور ان سے حسن
سلوک کیا جائے۔

(۲۷) میاں یوی کا آجیں میں حسن سلوک : میاں یوی کا ایک دوسرے کے
ساتھ حسن سلوک اسی کی ضروریات کا خیال رکھنا اس کے ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ
کرنا اور اس کی ناگواریا توں پر صبر کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ آنحضرت ﷺ کا
ارشاد ہے:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ
لِسَاءُهُمْ (جامع ترمذی)

مسلمانوں میں کامل ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو ان میں اخلاق کے
اعتبار سے سب سے اچھے ہوں اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی
محورتوں کے لئے بہترین ہوں۔

وہ حدیث یہ چیز گذری بھی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
جو کھانے کی چیز تم اپنی یوی کے منہ میں ڈالوں پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ بلکہ ایک

حدیث میں ہے کہ میاں یوں آپس میں جو خوبی عمل کرتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں، کیا اس پر بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا: بھلا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش حرام طریقے پر پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ (یقیناً ہوتا) تو جو شخص اسے حلال طریقے سے پورا کر رہا ہے اس کو اجر ملے گا۔“ (صحیح مسلم)

بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب شوہر گھر میں آ کر اپنی یوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یوں شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

میاں یوں چونکہ ہر وقت ساتھ رہتے اور طویل مدت تک ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لئے کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے ناگواری پیش آ جانا بھی ایک فطری سی بات ہے۔ لیکن اگر اس ناگواری کو لڑائی بھگڑے اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کا ذریعہ بنالیا جائے تو دنیا کی سرتیں بھی غارت ہو جاتی ہیں اور میاں یوں کے آپس میں حسن سلوک کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ نے ایسے موقع کے لئے بھی بڑا ذریں دستور العمل عطا فرمایا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن باتوں سے ناگواری ہو رہی ہے۔ صرف ان ہی کو نہ دیکھو۔ یہ بھی سوچو کہ جس کی باتیں ناگوار ہو رہی ہیں اسی میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں۔ ان خوبیوں پر دھیان دینے سے ناگواری میں یقیناً کی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ (آل عمران)

پھر اگر تم ان (بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو (یہ سوچوک) عین ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔

اور ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا يُفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنَّ كَرَهَةَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَّ مِنْهَا آخْرًا.

کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے کلی طور پر بغض نہ رکھ، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو گی تو کوئی دوسری بات پسند بھی ہو گی۔

اگر میاں بیوی اس اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گذاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی پوری کوشش کریں تو ان کی ازو دوامی زندگی سرتوں سے مالا مال بھی ہو جائے گی اور حسن سلوک کی وجہ سے دونوں کے اجر و ثواب میں بھی زندگی بھراضافہ ہوتا رہے گا۔

(۲۸) صلدر جی: رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو ”صلدر جی“ کہا جاتا ہے اور ”صلدر جی“ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر صلدر جی کا حکم دیا ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ (التساء: ۳۶)

اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ۔

نیز ارشاد ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ。 (التساء: ۱)

اور اللہ سے ذر و جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے (حقوق کے) مطالبے کرتے ہو اور رشتہ داریوں کے حقوق کا خیال رکھو۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَصْلُ دَرْجَةً. (بخاری و مسلم)

جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوا سے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صدر جی کرے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْطُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُشَأْ لَهُ فِي أُثْرِهِ فَلَيَصْلُ دَرْجَةً. (بخاری و مسلم)

جو شخص یہ چاہیے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو۔ اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صدر جی کرے۔

صدر جی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، ان کے دکھ بکھ میں شامل رہے۔ ان کو کسی دعویٰ کی ضرورت ہو تو جائز طور پر ان کی عدو کرے۔ لیکن ”صدر جی“ کے بارے میں چد باتیں ہیں یاد رکھنی چاہئیں۔

بعض لوگ رشتہ داروں کی رعایت اس حد تک کرتے ہیں کہ اس کام کے لئے گناہوں کے ارتکاب سے بھی درفعہ نہیں کرتے اور اپنے اس عمل کو ”صدر جی“ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مثلاً رشتہ داروں کے اصرار پر کسی گناہ میں شریک ہو جانا، ان کی تاجران سفارش کر دینا یا انہیں ایسی ملازمت دلوادینا جس کے وہ مستحق نہیں ہیں۔ یاد رکھئے کہ یہ باتیں ہرگز جائز نہیں ہیں اور ”صدر جی“ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رشتہ داروں کی خاطر یا ان کی مردوں میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے۔ لہذا جب کوئی رشتہ دار کسی

ناجائز کام کو کہے تو اس سے نرمی کے ساتھ مغدرت کر دینا ضروری ہے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ "صلوٰحی" اس وقت موجب ثواب ہوتی ہے۔ جب اس کا مقصد اپنے رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوش کرنا ہوا اگر محض بدله دکھاوایا رسموں کی پابندی میں کوئی کام کیا جائے تو اس پر "صلوٰحی" کی فضیلت حاصل ہونی شکل ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت رسموں کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں زیادہ تر یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ اگر ایمانہ کیا گیا تو برادری میں ٹاک کٹ جائے گی۔ چنانچہ محض رسم پوری کرنے کی خاطر بہت سے کام کے جاتے ہیں اندر سے ان کاموں کو دل نہیں چاہتا۔ اس طرح کے خیالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کسی رشتہ دار کے ساتھ جو کوئی نیکی کا معاملہ کیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کی جائے اور وہ کام خوش دلی سے کیا جائے۔ محض رسم کی خاطر شرعاً شری کوئی کام کرنے سے کلی پرہیز کیا جائے۔

چونکہ "صلوٰحی" غالباً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہونی چاہیے۔ اس لئے دوسری طرف سے اس کے بدلے کا انتظار بھی نہ کرنا چاہیے اور اگر دوسری طرف سے اس کا اچھا جواب نہ ملے۔ تب بھی "صلوٰحی" کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور درحقیقت یہی بات اس کی علامت ہے کہ "صلوٰحی" اللہ کے لئے ہو رہی ہے یا محض دکھاوے اور نام نہ مود کے لئے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِثِيْ، وَلِكُنَّ الْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَجْمَهُ وَحَلَقَهَا. (معجم بخاری)

وہ محض صلوٰحی کرنے والا نہیں ہے جو دوسروں کا بدلہ چکائے۔ بلکہ صلوٰحی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے اس کی رشتہ داری کی حق تلفی

کریں تب بھی یہ ان کے ساتھ صدر جی کرے۔

اور حضرت ام کلثوم بنت عقبہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

أَفْضُلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَىٰ ذِي الرَّحْمَةِ الْكَاشِحِ

سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بعض رکھنے والے رشتے دار کو دیا

جائے۔ (حاکم بطرافی، التغییب والترہیب، ج ۲، ج ۲)

جب رشتے داروں کی طرف سے اچھا معاملہ نہ ہو رہا ہو۔ اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا درحقیقت "صدر جی" کا کمال ہے اور اس پر بے حد اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتے دار ہیں میں ان سے صدر جی کرتا ہوں مگر وہ میری حق تلفی کرتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے براسلوک کرتے ہیں۔ میں ان سے بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جھکڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ: "اگر واقعی ایسا ہے تو گویا تم انہیں گرم را کھکھلا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ بیشہ ایک مد دگار رہے گا۔" (صحیح مسلم)

یعنی وہ اپنے عمل سے دوزخ خرید رہے ہیں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف تمہاری مدد ہو گی۔

(۲۹) پڑوی کے ساتھ نیک سلوک: اللہ تعالیٰ نے پڑوی کے بہت حقوق رکھے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُؤْجِبُنِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَّتُ أَنَّهُ سَيُورَثَهُ.

(بخاری و مسلم عن ابن عمرؓ عرضہ عائشہؓ)

جب تسلیل علیہ السلام مجھے پڑوی کے بارے میں اتنی کثرت سے نیخت

کرتے رہے کہ مجھے یہ مگان ہونے لگا کہ شاید وہ اس کو وزارت میں بھی حق دار قرار دے دیں گے۔

حضرت ابو شریع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُؤْمِنْ إِلَى جَاهَةِ
جُنُونِ اللَّهِ پَرَادِرِ يَوْمِ آخِرٍ تِبْرِيزِ
كَسَاطِ حَسْنِ سُلُوكٍ كَمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ
كَمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ بِزُورٍ (صحیح مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہؓ آپؓ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقُولُ ذَجَارَةً
جُنُونِ اللَّهِ پَرَادِرِ يَوْمِ آخِرٍ تِبْرِيزِ
كَسَاطِ حَسْنِ سُلُوكٍ كَمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ
كَمَا يَصِيرُ إِلَيْهِ بِزُورٍ (بخاری و مسلم)

پڑوی کا سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ اپنی ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کے علاوہ ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرنا۔ بھی کبھی اس کو کچھ بدیہی سمجھ دینا۔ اس کے دکھ سکھ میں شریک رہنا۔ یہ سب باتیں موجب اجر و ثواب ہیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کی مالی مدد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کیوں کہ پڑوی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معافی اور سماجی اعتبار سے اپنا ہم پلہ ہو۔ اگر کچھ غریب لوگ اپنے پڑوں میں آباد ہیں تو وہ بھی پڑوی ہیں اور ان کے حقوق اس لحاظ سے زیادہ ہیں کہ ان کی خبری گیری دوسروں سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی پڑوی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھانا صرف موجب اجر و ثواب ہی نہیں، فرض ہے۔ اسی طرح پڑوی اگر غیر مسلم بھی ہوتا بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے یہاں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح ہوئی۔ آپؓ کے

پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ آپ بار بار گھر والوں کو تاکید کرتے رہے کہ اس یہودی پڑوسی کو بھی گوشت کا ہدایہ بھیجو۔ (ابوداؤ و ترمذی)

(۳۰) خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی: لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تَحْقِرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَ لَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

(صحیح مسلم)

نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ نیک کام یہ ہو کہم اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے (خندہ پیشانی) سے ملو۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کو ایک نیکی قرار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس نیکی کو کوئی معنوی یا حقیر نیکی نہ سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی تمہارے نامہ اعمال میں بڑے ثواب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلَ فِي مِيزَانَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ اللَّهَ يُعِظُّ الْفَاحِشَ الْبَدِئِ.

قیامت کے دن مومکن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ فخش گواہ رہے ہو وہ کو شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ (جامع ترمذی)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا "تقویٰ اور خوش اخلاقی" (جامع ترمذی)

ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد

نقل فرماتے ہیں:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

تمام مونوں میں کامل ترین ایمان و اعلیٰ وہ لوگ ہیں جو ان میں اخلاق
کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ (ترمذی)

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَذَرُ كُبُحَسْنٍ خُلُقَهُ دَرَجَةُ الصَّالِمِ الْقَائِمِ

مومن اپنے حسن اخلاق سے اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو روزہ دار اور نماز میں کھڑا رہنے والا ہو (یعنی نقلي روزے بہت رکھتا ہو اور نقلي نمازیں بہت پڑھتا ہو) (ابوداؤد)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرِبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا۔ (ترمذی)

تم میں سے جو لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجلس میں مجھے سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ لوگ ہیں جو تم

میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔

ان تمام احادیث میں جس خوش اخلاقی کی عظیم فضیلیتیں بیان کی گئی ہیں وہ اگرچہ ایک وسیع مفہوم رکھتی ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اس کا ایک اہم حصہ ہے اور اس پر بھی یہ فضائل صادق آتے ہیں۔

(۳۱) هم سفر سے حسن سلوک: جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکان کے پڑوی کے بہت حقوق رکھے ہیں۔ اسی طرح ہم سفر کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ہم سفر سے مراد وہ شخص ہے جس سے خواہ پہلے جان پہچان نہ ہو لیکن کسی سفر کے دوران وہ ساتھ ہو گیا ہو۔ مثلاً بسوں، ریلوؤ اور ہوائی جہاز میں اپنے قریب بیٹھنے والا۔ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بعض لوگ سفر میں اپنے آرام کی خاطر اپنے ہم سفروں کو تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ سفر تو ایک مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طرح گذر ہتی جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے کسی عمل سے اپنے ہم سفر کو نا حق کوئی تکلیف پہنچی تو اس کا گناہ اور شدید گناہ ہمیشہ کے لیے اپنے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہ گناہ چونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اس لیے صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہم سفر اس کو معاف نہ کرے اور عموماً جن لوگوں سے سفر میں ملاقات ہوتی ہے۔ سفر کے بعد نہ ان سے کبھی ملاقات ہوتی ہے نہ ان کا پتہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے معافی کرائی جائے۔ اس لیے سفر کے اختتام کے بعد اس گناہ کی معافی کا عام حالات میں کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس لحاظ سے ہم سفر کو تکلیف پہنچانے کا گناہ انتہائی سُکھن گناہ ہے جس کی معافی بہت

مشکل ہے۔

دوسری طرف اگر ہم سفر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حتی الامکان ایشارے کام لیا جائے اور اس کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے یا کم از کم اس سے خندہ پیشانی کا معاملہ کیا جائے تو یہ بہت ثواب کا کام ہے اور معمونی توجہ سے ثواب کا ایک بڑا خزانہ اپنے لیے جمع کیا جاسکتا ہے۔

(۳۲) اللہ کے لیے ملاقات: کسی مسلمان سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ملاقات کے لیے جانا بھی بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اور اللہ کے لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملاقات کا مقصد کوئی دنیوی مفاد حاصل کرنا نہ ہو بلکہ یا تو اس کی لیے اس سے ملاقات کی جائے کہ وہ ایک نیک آدمی ہے یا کوئی عالم ہے اور اس کی صحبت سے اپنی اصلاح تقصید ہے یا اس لیے ملاقات کی جائے کہ اس کا دل خوش ہو اور مسلمان کا دل خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بھی یہ ملاقات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سمجھی جائے گی اور ان شاء اللہ اس پر اجر ملے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَرَأْخَالَةَ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بَأْنَ طَبَّكَ وَ طَابَ مَمْشَاكَ وَ تَبَوَّأَتِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.

جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرنے یا اپنے کسی بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ملاقات کو جائے۔ اس کو ایک (غیبی) منادی پکار کر کہتا ہے کہ: ”تو بھی مبارک، تیرا چلنا بھی مبارک اور تو نے جنت کی ایک منزل میں ٹھکانہ بنالیا۔ (ترمذی و قال: حسن)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان سے بنیت ثواب ملنے سے بھی نامہ

اعمال میں نیکیوں کا بہت اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم ان ہی لوگوں سے ملاقات کرنے کا ہے۔ جن کی ملاقات سے اپنا کوئی دینی نقصان نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس کی ملاقات کے نتیجے میں کسی گناہ میں بنتا ہونا پڑے گا یا اس کی بری صحبت سے اپنے اوپر برا اثر پڑے گا یا غیبت وغیرہ کرنی یا سُنی پڑے گی یا بے فائدہ باتوں سے بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ایسی ملاقات اور صحبت سے پچنا ہی بہتر ہے۔

(۳۳) مہمان کا اکرام: مہمان کی عزت اور مناسب خاطرداری بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے جس کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ (بخاری و مسلم)

مہمان کے اکرام کا مطلب یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ اگر کھانے کا وقت ہو تو بقدر استطاعت کھانے سے اس کی تواضع کی جائے۔ بلکہ ایک حدیث کی روایت یہ بھی مہمان کا حق ہے کہ اگر استطاعت ہو تو پہلے دن اس کے لیے کوئی خصوصی کھانا تیار کیا جائے جس کو حدیث میں ”جائزة“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری۔ عن أبي شرحبيل رضي الله عنه)

البته ان تمام باتوں میں مخفی رسمیات، نام و نموداً اور تکلفات سے پرہیز کرنا چاہیے مہمان کے اکرام کا سب سے اول مطلب یہ ہے کہ اس کو آرام پہنچانے کی فکر کی جائے لہذا اگر اسے کھانے سے تکلیف ہو تو مخفی رسم کی خاطر کھانے پر اصرار کرنا اکرام

کے خلاف ہے۔ ایسی صورت میں اس کا اکرام یہی ہے کہ اس کے آرام اور منشاء کو
منظراً رکھا جائے۔

دوسری طرف مہمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ میز بان پر ناوجہی بوجھ
نہ ڈالے اور اتنی دیر اس کے پاس نہ ٹھہرے جس سے اس پر بار ہونے لگے۔ صحیح مسلم کی
ایک حدیث میں اس کی صریح ممانعت آئی ہے۔

(۳۲) راستے سے تکلیف وہ چیز کو دور کر دینا: اگر راستے میں کوئی گندگی پڑی
ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے گذرنے والوں کو تکلیف چیختے کا اندر یہ ہو مثلاً کوئی کائنات
کوئی رکاوٹ، کوئی ایسا چھلکا جس سے پھسل کر گرنے کا خطرہ ہو۔ اس کو راستے سے ہٹا
دینا بھی بڑی نیکی کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْإِيمَانُ بِضَعْ وَ سَبْعُونَ شُبْعَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذْى عَنِ الظَّرِيقِ۔ (بخاری و مسلم)

ایمان کے ستر سے کچھ اور پرشعبے ہیں۔ ان میں سے افضل ترین لا الہ الا
اللہ کا اقرار ہے۔ اور ادنیٰ ترین راستے سے تکلیف (یا گندگی) کو دور کر
دینا ہے۔

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہؓ نے ہی روایت کیا ہے کہ:

وَتُمْيِطُ الْأَذْى عَنِ الظَّرِيقِ صَدَقَةً۔ (بخاری و مسلم)

اور راستے سے گندگی (یا تکلیف کی چیز کو) دور کرو تو یہ بھی صدقہ ہے
(یعنی اس پر صدقے کی طرح ثواب ملتا ہے)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ خَلِقٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنْيَ آدَمَ عَلَى سَبَّئِينَ وَالْثَلَاثِمَائَةِ
مَغْضُلٌ. فَمَنْ كَبَرَ اللَّهُ وَجَمِيلًا اللَّهُ وَهَلَلَ وَسَبَحَ اللَّهُ
وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوَّكَةً أَوْ
عَظِيمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ
عَذَّةُ السَّبَّئِينَ وَالْثَلَاثِمَائَةِ، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ رَخَّزَ
نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ.

بنی آدم میں ہر انسان کے (جسم میں) تین سو ساٹھ جوڑ پیدا کئے گئے ہیں۔ پس جو شخص اللہ کی تکمیر کہے اللہ کی حمد کرے اور لا الہ الا اللہ اور
سبحان اللہ کہے اور اللہ سے استغفار کرے اور لوگوں کے راستے سے کوئی
پھر ہٹادے یا کوئی کامنا یا کوئی بڑی راستے سے ہٹادے یا کسی نیکی کا حکم
دے یا کسی برائی سے روکے (اور اس قسم کی نیکیاں) تین سو ساٹھ کے
عدوتک پہنچ جائیں تو وہ اس دن اپنے آپ کو عذاب جہنم سے دور کر لے
گا۔ (صحیح مسلم)

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص
نے راستے پلتے ہوئے ایک کائنے دار شاخ زمین پر پڑی ہوئی دیکھی اور لوگوں کو
تکلیف سے بچانے کی خاطر اسے راستے سے ہٹادا یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو
قبول فرمایا کہ اس کی مغفرت فرمادی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے
فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو جنت میں پلتے پھرتے دیکھا۔ (صحیح مسلم)

ان احادیث سے واضح ہے کہ گذرگا ہوں کو صاف ستر ارکھنے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ ایک کائنے دار شاخ کو راستے سے ہٹا دینے پر جو ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی اس قدر ترغیب دی گئی ہے تو راستے کو گندگی سے آلوہ کرنا جس سے گذرنے والوں کو تکلیف ہو کتنا بڑا گناہ ہو گا اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ گذرنے والوں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی سواری (کار، موٹر سائیکل وغیرہ) کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا جائے۔ جس سے دوسری سواریوں کا راستہ بند ہو جائے۔ یا ان کو چلنے میں دشواری کا سامنا ہو۔ یا اس طرح بے قاعدہ گاڑی چلانی جائے جس سے دوسروں کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف ہو۔ یہ ساری باتیں گناہ ہیں اور ان سے پر ہیز کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے کسی گناہ کمیرہ سے۔

ایسی طرح ٹریفک کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں ان کا مقصد گذرگا ہوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے اور ان کی پابندی صرف قانون کا تقاضا ہی نہیں ہے ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ اگر ان کی پابندی اس نیت سے کی جائے کہ اس نے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہو گا، لوگوں کو راحت ملے گی اور ان کو تکلیف سے بچانے کی ممکنہ کوشش ہو سکے گی تو ان سب اعمال پر انشاء اللہ اجر و ثواب ملے گا اور اگر ان قواعد کی خلاف ورزی کی جائے تو اس سے دو ہر اگناہ ہو گا، ایک لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا اور دوسرے نظم و ضبط میں خلل ڈالنے اور ذمہ داروں کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا۔

افسوں ہے کہ آج کل ان باتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اچھے خاصے بظاہر دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کے گناہوں میں نے مجاہدیاں بنتا رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھا اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

(۳۵) جھگڑے سے پر ہیز: لڑائی جھگڑا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں جھگڑا الادمی کی بہت مذمت کی گئی ہے اس کے برخلاف حلم بردباری اور جھگڑے سے پر ہیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور ایسے شخص کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے قبیلہ عبد القیس کے ایک شخص سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُجْهِمُهَا اللَّهُ: الْحَلْمُ وَالْأَنَاءُ.

تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں:

بردباری اور تملکت۔ (صحیح مسلم)

چنانچہ اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود مخفی رفع شر اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے یا صلح کر لے۔ اس کو آنحضرت ﷺ نے بہت عظیم بشارت دی ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَنَا زَعِيمُ بَيْتٍ فِي رَبِيعِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحْقَقاً. (من ابو داؤد)

میں اس شخص کو جنت کے کناروں پر گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے خواہ وہ حق پر ہو۔

جس شخص کو جنت میں پہنچانے بلکہ جنت میں گھر دلانے کی ضمانت آنحضرت ﷺ نے لے لی ہو۔ اس کی خوش نصیبی کا کیا تھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دولت

تمام مسلمانوں کو عطا فرمائیں۔ آمین

(۳۶) دین کی بات سیکھنا: ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی اتنی معلومات حاصل کرے۔ جن کے ذریعے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گذار سکے۔ ہر شخص کا پورا باضابطہ عالم دین بننا ضروری نہیں لیکن بقدر ضرورت وینی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ مثلاً نماز روزے اور حج زکوٰۃ کے ضروری مسائل جس قسم کے معاملات اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے احکام وغیرہ۔

پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے دین کی ضروری باتیں سیکھنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہاں اس عمل پر بڑے اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ یعنی دین سیکھنے کا ہر عمل ایک مستقل نیکی ہے جس کی بہت فضیلیتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتَّبِعُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى
الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْبَعَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِمَا
صَنَعَ۔ (ابوداؤ وترنی)

جو شخص اس غرض کے لیے کسی راستے پر چلے کہ علم کی کوئی بات سیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرمادیں گے اور علم طلب کرنے والے کے لیے اس کے عمل پر اظہار خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔

اس فضیلت میں وہ طلبہ علم تو داخل ہیں ہی جو باقاعدہ علم دین کی تحصیل کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پورے عالم دین بننے کی نیت سے نہیں

بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں یا ضرورت کے وقت کسی عالم یا مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں یا کسی وعظ و نصیحت میں اس نیت سے شریک ہوتے ہیں کہ دین کی باتیں سیکھیں گے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ ایسے لوگ بھی اس فضیلت میں حصہ دار ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ.

(جامع ترمذی)

جو شخص علم کی طلب میں گرفتے نکلے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔

غرض دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے جو اقدام کیا جائے۔ انشاء اللہ اس پر طلب علم کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ یہاں تک کہ اس غرض سے مستند دینی اور اصلاحی کتابوں کے مطالعے پر بھی اسی اجر و ثواب کی پوری امید ہے بشرطیکہ کتاب میں مستند ہوں۔ جس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کسی عالم سے پوچھ کر کتابوں کا انتخاب کیا جائے۔ لہذا جہاں کہیں سے دین کی کوئی بات سیکھنے کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس سے اپنی معلومات میں بھی اضافہ ہوگتا ہے۔ زندگی سنوارنے میں بھی مدد ملتی ہے اور نیکیوں میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ علم ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے جس کی کوئی انہانیں ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے۔ لیکن مزید علم کی طلب اس کو بھی رہتی ہے اور رہنی چاہیے۔ اسی لئے حدیث میں ہے کہ جو شخص علم کا حریص ہو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا یعنی وہ ہر مرحلے پر مزید علم کی تلاش میں رہتا ہے اور نیکیوں کے حصول کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔

(۳۷) دین کی بات سکھانا: جس طرح دین کی بات سیکھنا بڑے ثواب کا کام ہے اسی طرح کسی کو دین کی بات سکھانا اس سے بھی زیادہ فضیلت کا عمل ہے۔ بشرطیکہ اس کا مقصد اپنا علم جانا اور بڑائی ظاہر کرنا شہ ہو بلکہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمَلَةَ فِي جُحَرِهَا، وَحَتَّى الْحَوْتٌ لَيَصُلُونَ عَلَى مُعَلَّمِي النَّاسِ الْخَيْرِ.

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوقات یہاں تک کہ اپنے بلوں میں رہنے والی چیزوں میاں اور یہاں تک کہ مجھلیاں ان لوگوں پر رحمت سمجھتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ (جامع ترمذی) اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَأَنَّ يَهْدِيَ اللَّهُ بَكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا مِنْ حُمْرَ الْبَعْيمِ. (بخاری و مسلم)

اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

”سرخ اونٹ“ عرب میں بہت بڑی دولت شمار ہوتے تھے۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے تو یہ تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بہتر ہے۔

لہذا جب کسی شخص کو دین کی کوئی بات بتانے کا موقع ہو تو اس کو غنیمت سمجھ کر

یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کو دین کی
باتیں سکھاتے رہنا چاہیے کہ یہ انسان کے حق میں بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔

(۳۸) بڑوں کی عزت: اگرچہ اسلامی تعلیمات کی رو سے اصل فضیلت تقویٰ اور
علم کو حاصل ہے لیکن ساتھ ہی چھوٹی عمر والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سے بڑی
عمر والوں کی عزت کریں۔ یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرُحْمَ صَفِيفُنَا وَ يَعْرُفْ شَرْفَ كَبِيرُنَا

وَهُنَّ أَخْلَقُهُمْ مِنْ سَيِّدِنَا وَرَبِّنَا
ہمارے بڑے کی عزت نہ پہچانے۔ (ابوداؤ و ترمذی)

خاص طور سے جس شخص کے بال سفید ہو گئے ہوں اس کی عزت و احترام کی
حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَجْلَالِ اللَّهِ تَعَالَى إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ.

یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ کسی سفید بالوں والے مسلمان کا
احترام کیا جائے۔ (ابوداؤ)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد
فرمایا:

مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسَنَهٖ إِلَّا قَيَضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُنْكِرُ مَهْ عِنْدَهُ
سَنَهٖ. (ترمذی و دقال: غریب)

جونو جوان کسی بڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرمادیتے ہیں جو اس کی بڑی عمر میں اس کی

عزت کریں۔

آنحضرت ﷺ کا معمول تھا کہ اگر کسی وفد میں سے کوئی چھوٹی عمر کا شخص بڑوں سے پہلے بولنا شروع کر دیتا تو آپؐ اس کو تاکید فرماتے کہ بڑے کو پہلے بولنے دو۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑوں کی عزت و توقیر کی آپؐ نے کس درجے تاکید فرمائی ہے اور اسی پر یقیناً اجر و ثواب ملتا ہے۔

(۳۹) شعارِ اسلام کی تعظیم: وہ تمام چیزیں جو اسلام اور مسلمانوں کی علامت صحیحی جاتی ہیں۔ ان کو شعارِ اسلام کہا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم، بیت اللہ شریف، مسجدیں، مقدس مقامات، نماز، اذان وغیرہ۔ ان شعائر کا احترام بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
اور جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ عمل دلوں کے تقویٰ کے سبب
ہے۔

(۴۰) بچوں پر شفقت: بچوں پر شفقت آنحضرت ﷺ کی سنت ہے جیسا کہ پیچھے گزر رہا آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاتے میں کسی بچے کے رو نے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس بچے کی ماں اپنے بچے کا روناں کر پریشانی میں نہ پڑ جائے۔

آنحضرت ﷺ چھوٹے بچوں کو گود میں لیتے۔ انہیں پیار فرماتے اور ان کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں سنت ہیں اور اتباع سنت کی

نیت سے پر سارے کام کرنے میں بہت اجر و ثواب ہے۔

(۲۱) اذان دینا: اذان شعائر اسلام میں سے ہے اور احادیث میں اذان دینے کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو اذان کے اجر اور فضیلت کا تھیک تھیک حال معلوم ہو جائے تو ہر شخص اذان دینے کی کوشش کرے اور خواہش مند افراد کی زیادتی کی وجہ سے قرعہ اندازی کرنی پڑ جائے۔

آج کل مسجدوں میں عموماً موذن مقرر ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں تک اذان کی آوازنہیں پہنچی تو وہاں بھی نماز سے پہلے اذان دینا مسنون ہے اور ایسے موقع پر اذان کی یہ فضیلت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن معصہؓ کے صاحبزادے عبد اللہ سے فرمایا کہ ”میں دیکھتا ہوں کہ تم کو بکریوں اور صحراؤں سے بہت لگاؤ ہے۔ اب جب کبھی تم اپنی بکریوں کے درمیان یا صحرائیں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو اس لئے کہ موذن کی آواز جہاں تک بھی پہنچتی ہے وہاں کے جنات، انسان اور ہر چیز جو اس آواز کو سنتی ہے وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی یہ کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔“ (صحیح بخاری)

اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اذان دینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور موقع ملنے پر اس فضیلت کے حصول میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔

(۲۲) اذان کا جواب دینا: اذان کا ادب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو حتیٰ

الامکان خاموش ہو جانا چاہیے اور آنحضرت ﷺ نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ اذان کے ہر لفظ کا جواب دینا چاہیے۔ یعنی جو جو الفاظِ مَوْذُن کہتا جائے وہ سننے والے کو بھی کہنے چاہیں۔ البتہ جب مَوْذُن حَسْنَى عَلَى الصَّلَاةِ اور حَسْنَى عَلَى الْفَلَاحِ کہے تو ان کلمات کے جواب میں لا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کہنا چاہیے۔ اور جب مجرم کی نماز میں مَوْذُن الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کہے تو اس کے جواب میں صَدَقَتْ وَبَرَأْتْ کہنا چاہیے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

”جب تم اذان سنو تو مَوْذُن کی طرح تم بھی وہی الفاظ کہو پھر مجھ پر درود بھیجو۔ کیوں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر درس مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام ”وسیله“ کی دعا کرو کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا چنانچہ جو شخص میرے لیے ”وسیله“ کی دعا کرے گا۔ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔“ (صحیح مسلم)

اسی فضیلت کے پیش نظر آنحضرت ﷺ نے اذان کے بعد جو دعا تلقین فرمائی۔ اس میں آپ کے لیے ”وسیله“ کی دعا موجود ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ التَّائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اتْ
مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُودًا الَّذِي
وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کو یہ بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لئے آنحضرت ﷺ کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (بخاری)

اس کے علاوہ اذان کے بعد یہ الفاظ کہنا بھی حدیث سے ثابت ہیں:

أشهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ رَضِيَّتِ بِاللَّهِ رَبِّاً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْأَسْلَامِ دِينًا.

اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر یہ الفاظ کہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ (صحیح مسلم) اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد یہ دعائیں پڑھنے میں کوئی دریں نہیں لگتی، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے۔ صرف دھیان دینے اور عادات ڈالنے کی بات ہے۔ اگر ان اذکار کی عادات ڈال لی جائے تو بغیر کسی وقت اور محنت کے انسان کو بہت عظیم اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لئے اذان کے وقت ان آداب کا پورا خیال رکھنا چاہیے ہاں! کوئی عذر ہو تو اور بات ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ مسجدوں کی اذانیں یکے بعد دیگرے سنائی دیتی ہوں تو صرف پہلی اذان جو صاف سنائی دے اس کا جواب دینے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے بعد میں ہونے والی اذانوں کا جواب اگر نہ بھی دیا جائے تو کچھ حرج نہیں۔ (شایی)

(۲۳) تلاوت قرآن کریم: قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کا اصل حق تو یہ ہے کہ اس پر سمجھ کر عمل کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازne کا ایک ذریعہ قرآن کریم کے

الفاظ کی تلاوت کو بھی قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت بھی بے انتہا اجر و ثواب کی حامل ہے۔ بعض نوگ نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انسانوں کی کتاب پر قیاس کرتے ہیں جن کو بے سمجھے پڑھنا ایک فضول کام سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات تو دنیا و آخرت کی فلاخ کی صامن ہیں ہی۔ لیکن اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے اور اس کی محض تلاوت بھی موجب ثواب اور باعث خیر و برکت ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَرَا حُرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بَعْشَرُ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْمَ حُرْفٌ، وَلِكُنْ: الْفَ حُرْفٌ، وَلَامٌ حُرْفٌ، وَمِيمٌ حُرْفٌ۔ (ترمذی)

جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے۔ اس کو ایک نیکی ملے گی اور یہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہیں کہتا کہ الْمِ ایک حرف ہے بلکہ الْفِ ایک حرف ہے لاما ایک حرف ہے اور مِیم ایک حرف ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صرف الْمِ تلاوت کرے تو صرف اتنی تلاوت سے بھی اس کے نامہ اعمال میں تیس نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ثواب یہ سمجھے پڑھنے پر بھی ملتا ہے کیوں کہ الْمِ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کا کوئی امکان ہے۔ (کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو مشابہات میں داخل ہیں اور ان کے

معنی کوئی نہیں جانتا) آنحضرت ﷺ نے ان حروف کی مثال دے کر یہ بھی واضح فرمادیا کہ تلاوت قرآن کا یہ ثواب معنی سمجھنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ بے سمجھے تلاوت پر بھی یہ ثواب ملتا ہے۔

غرض جب صرف الٰم پڑھنے پر تمیں نیکیاں حاصل ہو سیں تو قرآن کریم کا ایک روکوں یا ایک سورت پڑھنے سے کتنا اجر و ثواب حاصل ہو گا؟

ایسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر روز صبح کو دوسرے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ نہ پچھہ تلاوت کا معمول بنائے۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکتے تو پاؤ پارہ اور اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک روکوں ہی پڑھ لیا کرے تو ہر روز اس کے نامہ اعمال میں سینکڑوں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔

ایسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی کچھ سورتیں زبانی یا دکر لے تاکہ جب موقع ملے، قرآن کریم کھو لے بغیر بھی وہ زبانی تلاوت کر سکے اور اس طرح چلتے پھرتے بھی اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکے۔ حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جس شخص کے جوف میں (یعنی حافظہ میں) قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ایک دیران گھر کی طرح ہے۔" (ترمذی)

(۳۲) سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت: قرآن کریم کی تلاوت جس حصے سے بھی ہوئی ثواب ہے یقین بعض سورتوں کے خاص خاص فضائل آنحضرت ﷺ نے بیان فرمائے ہیں۔ مختصر سورتوں میں سب سے زیادہ فضائل سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص (فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) کے بیان کئے گئے ہیں۔ اور بہت سی حدیثوں میں آنحضرت ﷺ نے فضیلت میں سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کے

برابر قرار دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ”جمع ہو جاؤ“ میں تمہارے سامنے ایک تھائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔“ کچھ حضرات صحابہ ”جمع ہو گئے تو آنحضرت ﷺ گھر سے باہر تشریف لائے اور قلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ پڑھ کر اندر تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لا کر فرمایا: ”میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے ایک تھائی قرآن پڑھوں گا یاد رکھو یہ سورت (یعنی سورۃ اخلاص) ایک تھائی قرآن کے برابر ہے۔“ (مسلم و ترمذی)

اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں ایک تھائی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا؟

صحابہ نے عرض کیا کہ ایک شخص ایک رات میں تھائی قرآن کی تلاوت کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا: قلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ایک تھائی قرآن کے برابر ہے۔ (صحیح مسلم)

اسی لیے بزرگوں کا معنوں ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب کے لیے تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب مردے کو پہنچادیتے ہیں۔

(۲۵) اچھی طرح و ضمود کرنا: دخوکو اطمینان کے ساتھ اور سنت کے مطابق آداب کی رعایت کے ساتھ انجام دینا بھی بہت فضیلت کا عمل ہے جس پر احادیث میں بہت اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ تَوَضَّأَ فَإِنْ حَسِنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ حَطَابِيَّةً مِنْ جَسَدِهِ

حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ۔ (جمع مسلم ونسائي)

جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم سے گناہ انکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک سے خارج ہو جاتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا: ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کن باتوں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے اور درجات بلند فرماتے ہیں؟“ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔

آپ نے فرمایا: ”نفس کے ناگوار ہونے کے باوجود وضو کامل طریقے سے کرنا“ اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسرا نماز کا انتظار کرنا۔ یہ اعمال جہاد کی فضیلت رکھتے ہیں۔“ (مسلم و ترمذی)

یعنی جب سرد موسم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وضو کرنا و شوار معلوم ہو رہا ہو اس وقت بھی وضو کامل طریقے سے ادا کرنے کا اتنا ثواب ہے جتنا جہار میں کسی سرحد پر پھرہ دینے کا ثواب ہوتا ہے اور وضو کامل طریقے سے انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمام سنتوں اور آداب کے ساتھ وضو کیا جائے لہذا وضو کرنے میں ان تمام آداب کا اہتمام کرنا چاہیے اور وضو کا صحیح طریقہ اچھی طرح سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس سے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔

(۳۶) مساوک کرنا: آنحضرت ﷺ نے مساوک کرنے کی بہت فضیلیتیں پیان فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: **السِّوَاكُ مُظَهَّرٌ لِّلْفَعْمِ مَرْضَاةٌ لِّلرُّبُّ**.

سواک منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا۔ (سنن نبأ)

اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعُونَ ضِعْفًا۔ (الترغیب ص ۱۲۷) (ابو جالح حاکم واحد)

سواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز سواک کے بغیر پڑھی جانے والی نماز پر ستر گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

سواک کی فضیلت میں بے شمار احادیث آئی ہیں اور یہ آنحضرت ﷺ کی نہایت محبوب سنتوں میں سے ہے۔ جس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہے اور عمل بھی ایسا ہے۔ جس میں کوئی محنت، مشقت یا خرچ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے انسان بہت آسانی سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔

(۲۷) وضو کے بعد ذکر: حضرت فاروق عظیم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے۔ پھر یہ کلمات کہے۔

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

تو اسکے لیے جتنے کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ (صحیح بخاری)

ابوداؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کلمات کہتے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ ان کلمات کے ساتھ اللہُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُعَطَّهِرِينَ کا بھی اضافہ کیا جائے۔

(۲۸) تحکیۃ الوضوہ: وضو خواہ کسی مقصد کے لیے کیا جائے۔ اس کے فوراً بعد دو

رکعتیں تحیۃ الوضوء کی نیت سے پڑھنا بہت فضیلت کا حائل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دور کعتیں اس طرح پڑھے کہ اس کا چہرہ بھی اور دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ (مسلم، ابو داؤد، نسائی)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ (ثواب کی) امید ہو کیونکہ میں نے (معراج کے موقع پر) جنت میں اپنے سامنے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔“ حضرت بلالؓ نے عرض کیا۔ ”مجھے اپنے جس عمل سے سب سے زیادہ (اللہ کی رحمت کی) امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دن یا رات کے جس وقت میں بھی کبھی وضو کیا تو اس وضو سے جتنی توفیق ہوئی نماز ضرور پڑھی۔“ (بخاری و مسلم)

(۲۹) تحیۃ المسجد: اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ جب کبھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی نیت سے دور کعتیں پڑھ لے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ دور کعتیں پڑھ لے۔“ (ترمذی)
اس میں بھی اصل تو یہی ہے کہ دور کعتیں تحیۃ المسجد کی نیت سے مستقل طور پر پڑھی جائیں لیکن اگر فرض یا سنت کا وقت ہے اور اسی فرض یا سنت میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ اس نیت کی برکت سے انسان تحیۃ المسجد کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔

تحیۃ المسجد کا اصل طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں پہنچ کر بیٹھنے سے پہلے ہی یہ رکعتیں پڑھ لی جائیں لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بیٹھ گیا ہو تو بھی صحیح یہ ہے کہ تحیۃ المسجد

پڑھی جاسکتی ہے۔

اور اگر وقت اتنا لگ ہو کرتی ہے المسجد پڑھنے کا موقع نہ ہو تو کم از کم یہ کلمہ پڑھ

۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا
خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

بلکہ یہ کلمہ جتنی دی رہان سجد میں بیٹھا رہے مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس کو جنت کے پہلی کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۵۰) اعتکاف کی نیت: جب کبھی مسجد میں جانا ہو خواہ نماز کے لیے یا کسی اور کام سے اگر یہ نیت کر لی جائے کہ میں جتنی دی رہان سجد میں رہوں گا۔ اعتکاف سے رہوں گا تو انشاء اللہ اس نیت کی برکت سے نقلی اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔

(۵۱) پہلی صفائی میں نماز پڑھنے: انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیں گناہ زیادہ ہے لیکن جماعت کی نماز میں بھی پہلی صفائی میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفَّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً

اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صفائی میں کیا فضیلت ہے تو قرعہ اندازی کرنی پڑے۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابو یامہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفائی پر رحمت بھیجتے ہیں۔“ (منhadhr)

اور حضرت عرباض بن ساریہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ پہلی صفائی کے

لئے تین مرتبہ استغفار فرماتے تھے اور دوسری صفت کے لئے ایک مرتبہ۔ (نائل و ابن بابہ)
اللہذا یوں تو ہر نماز پہلی صفت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر ہر نماز
میں اس کی پابندی نہ ہو سکے تو جب کبھی موقع میں پہلی صفت کی فضیلت حاصل کرنے
کی فکر اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے لیکن پہلی صفت میں اس طرح زبردستی گھنسنا جائز
نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ
آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ مَخَافَةً أَنْ يُؤْذَى أَحَدًا أَصْعَفَ اللَّهَ
لَهُ أَجْرًا الصَّفَّ الْأَوَّلَ

جو شخص اس خوف سے پہلی صفت کو چھوڑ دے کر کسی دوسرے کو تکلیف ہو
گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صفت کے ثواب سے دو گناہ ثواب عطا فرماتے
ہیں۔ (الترغیب ص ۲۸۵ ج ۳ جو بالطبع اونی اسنادہ ضعف)

(۵۲) صفت کے خلا کو پر کرنا: جماعت کے دوران صفوں کو سیدھا رکھنے اور
صفوں کے درمیان خلا کو پر کرنے کی بھی بہت تاکید آتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت
بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

مَنْ وَصَلَ صَفَا وَصَلَةُ اللَّهِ.

جو شخص کسی صفت کو ملائے (یعنی اس کے خلا کو پر کرے) اللہ تعالیٰ اس کو
اپنے قرب سے نوازتے ہیں۔ (نائل)

اور حضرت ابو حیفہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
جو شخص صفت کے کسی خلا کو پر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔

(تغییب بحوالہ بزار)

اور عام حالات میں امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر زیادہ لوگ دائیں جانب کھڑے ہو گئے ہوں اور بائیں جانب کی جگہ خالی ہو تو اس صورت میں بائیں جانب کھڑے ہونے کی دو گنی فضیلت احادیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ (ملاحظہ: ہاتر غیب البذری ص ۲۸۷ حج احوالہ ابن حزیر)

(۵۳) نمازِ اشراق: نمازِ اشراق ایک نظری نماز ہے جو طلوع آفتاب کے بعد اس

وقت پڑھی جاتی ہے جب آفتاب ذرا بلند ہو جائے اور یہ طلوع آفتاب کے تقریباً بارہ منٹ بعد پڑھی جاسکتی ہے۔ یہ صرف دور کعین ہوتی ہیں لیکن احادیث میں اس نماز کے بے حد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص شخصی (اشراق) کی دور کعتوں کی پابندی کر لے۔ اس کے (صغیرہ) گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ کچھ صحابہؓ کو جہاد کی ایک مہم پر روانہ فرمایا۔ وہ بہت جلد لوٹ آئے اور بہت سامال غنیمت لے کر آئے۔ ایک صاحب نے اس پر تجуб کا انٹہار کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم نے اس سے پہلے کوئی لشکر ایسا نہیں دیکھا جو اتنی جلدی لوٹ کر آیا ہو۔ اور اسے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا ہو جتنا اس لشکر کو ہوا۔ آپؐ نے فرمایا کہ ”کیا میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان سے بھی جلدی واپس آ جائے اور ان سے بھی زیادہ مال غنیمت لے کر آئے۔ پھر فرمایا کہ ”جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے اور نماز فخر ادا کرے پھر اس کے بعد (یعنی طلوع آفتاب کے بعد) نمازِ اشراق

ادا کرے۔ وہ جلدی واپس آیا اور عظیم مال غنیمت لے کر آیا۔

(تغیب ص ۳۲۷ ج ۱ بحوالہ ابو یعلیٰ باستانی صحیح)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یقین چھپے بھی گذر چکی ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ان میں سے ہر ایک کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے ہر انسان کو دن میں کم از کم تین سو ساٹھ نیکیاں کرنی چاہئیں پھر آنحضرت ﷺ نے وہ نیکیاں بھی بیان فرمائیں۔ جن سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ كہنا ایک نیکی ہے، الْحَمْدُ لِلَّهِ كہنا ایک نیکی ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كہنا ایک نیکی ہے، اللَّهُ أَكْبَرُ کہنا ایک نیکی ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا ایک نیکی ہے، کسی کو برائی سے منع کرنا ایک نیکی ہے۔ پھر یہ ساری فہرست بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا:

وَيُجْزِيُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَاتٌ يُرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّلُحِ.

اور ان سب نیکیوں کے بد لے دور کتعیں بھی کافی ہو سکتی ہیں جو کوئی شخص

اشراق کے وقت ادا کرے (صحیح مسلم)

جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دور کتعیں تین سو ساٹھ نیکیوں کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، اشراق میں افضل طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر انسان اسی جگہ بیٹھ کر کرتا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد اشراق پڑھ کر اٹھئے۔ حدیث میں اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو گھر آ کریا کوئی دوسرا کام کر کے بھی اشراق کی رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔

(۵۲) جمعہ کے دن غسل اور خوبیوں کا: جمعہ کے دن غسل کرنے کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ غسل کرتے وقت یہ نیت رکھنی چاہیے کہ یہ غسل

جمعہ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے نیز غسل کے بعد خوشبو لگانا بھی سنت ہے اور اتباع سنت کی نیت سے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو یوب الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مِنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِبِّ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ
وَلَيْسَ أَخْسَنَ ثَيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ مَا
بَدَأَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ثُمَّ أَنْصَطَ حَتَّىٰ يُصْلَىٰ كَانَ كَفَارَةً لِمَا
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ (ترغیب بحوالہ منداہ)

جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے۔ اور اچھے کپڑے پہنے۔ پھر گھر سے نکل کر مسجد میں آئے۔ وہاں جتنی چاہے رکعتیں پڑھے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر خاموش رہے۔ یہاں تک کہ نماز پوری ہو جائے تو اس کا یہ عمل اس جمعہ سے اگلے جمعے تک (صغریہ گناہوں کا) کفارہ ہو جاتا ہے۔

اور حضرت ابو امامہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل بالوں کی جڑوں تک سے (صغریہ) گناہوں کو کھینچ کا لتا ہے۔ (طبرانی)

نیز جمعہ کے دن غسل کرنے اور خوشبو لگانے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں جو لوگ سب سے پہلے مسجد جائیں ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ایک اونٹ کی قربانی کا، پھر جو لوگ دوسرے نمبر پر ہوں ان کو گائے کی قربانی کا۔ پھر جو تیرے نمبر پر ہوں ان کو مینڈھے

کی قربانی کا پھر جو چوتھے نمبر پر آئیں ان کو مرغی کے برابر صدقے کا اور جو آخر میں آئیں ان کو اٹھے کے صدقے کا، لیکن جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں۔ (بخاری وسلم)

(۵۵) روزے میں سحری کھانا: روزے خواہ رمضان کے ہوں یا نظری، دونوں عظیم عبادت ہیں اور ان میں سحری کھانا مستقل کا رثواب ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: سحری کیا کرو کیوں کہ سحری میں برکت ہے۔“ (بخاری)

اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَبِّحِينَ.

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔

(ترغیب بحوالہ ابن حبان و طبرانی)

حضرت ابوسعید خدراوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

السُّحُورُ كُلَّهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَذَغُوهُ وَلَوْ أَنْ يَعْجَرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً
مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
الْمُتَسَبِّحِينَ (ایضاً بحوالہ مندرجہ و اسنادہ قوی)

سحری تمام تر برکت ہے۔ لہذا اس کو نہ چھوڑو خواہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔

اور سحری میں بھی بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں کی جائے۔

(۵۶) افطار جلدی کرنا: روزے میں جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد افطار میں جلدی کرنی چاہئے۔ بلاعذر در دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”لوگوں میں اس وقت تک خیر ہے گی۔ جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔“ (بخاری وسلم)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے، بہت محبوب ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں۔“ (مسند احمد و ترمذی)

(۵۷) روزہ دار کو افطار کرانا: کسی روزہ دار کو افطار کرانا بھی بہت ثواب کا عمل ہے۔ حضرت زید بن خالد چہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِ
الصَّائِمِ شَيْءٌ۔ (نسائی و ترمذی)

جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کو روزہ دار کے جتنا اجر ملے گا اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے روزے جتنا اجر ملے گا۔ جب کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔“ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ”ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا نہیں ہوتا جس سے وہ

روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزہ دار کو ایک سمجھو سے یا پانی سے یا دودھ کے گھونٹ سے افطار کرائے۔“ (حج ابن خزیر)

(۵۸) حاجی یا مجاہد کے گھر کی خبر گیری: ”حج“ اور ”جہاد“ بڑی عظیم عبادتیں ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی عدم استطاعت کی وجہ سے یہ عظیم عبادتیں خود انعام نہ دے سکتیں۔ ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کے ثواب میں حصہ دار بننے کا بہترین راستہ پیدا فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص کسی مجاہد کو جہاد کی تیاری میں مدد دے نیا کسی حاجی کے سفر حج کی تیاری میں مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہاد اور حج کے ثواب میں حصہ دار بنادیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جہاد یا حج پر گیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری ان کی ضروریات پوری کردیتا یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے انسان جہاد یا حج کے ثواب میں حصہ دار ہو جاتا ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا، أُوْجَهَزَ حَاجَّاً، أَوْ خَلْفَةً فِي أَهْلَهُ، أَوْ فَطَرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا۔ (سنن نافع)

جو شخص کسی مجاہد کو (جہاد کے لیے) تیار کرنے یا کسی حاجی کو (حج کے لیے) تیار کرے (یعنی اس کے اسباب فراہم کرنے میں مدد دے) یا اس کے پیچھے اس کے گھر کی دلکشی بھال کرے یا کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو ان سب لوگوں کے جتنا ثواب ملتا ہے۔ بغیر اس کے ”کہ ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔“

(۵۹) شہادت کی دعا کرنا: اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا انسان کی عنیم ترین سعادت ہے اور جس طرح شہادت کا بے حساب اجر و ثواب ہے اسی طرح اس کی قیمت اور دعا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اجر و ثواب رکھا ہے جو شہادت پر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہبیل بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ
إِنْ مَا تَعْلَمَ فِي رَبِّكَ

جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے شہید ہونے کی سچ دل سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ خواہ وہ شخص اپنے بستر پر ہی مرا ہو۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أَعْطَيْهَا، وَلَوْلَمْ تُصْبِهِ.

جو شخص سچ دل سے شہادت کا طلب کارہوا اس کو شہادت دے دی جاتی ہے خواہ بظاہر وہ اس کو نہیں ہو (یعنی وہ اپنے بستر پر مرے) (صحیح مسلم)

(۶۰) صحیح سویرے کام شروع کرنا: اپنے دن کا کام صحیح سویرے شروع کرنے کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

یا اللہ! میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا

فرماب (ترفی)

اس کے برخلاف آنحضرت ﷺ نے فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے منع فرمایا اور اس کو بے برکتی کا سبب قرار دیا۔ (ابن ماجہ)
ایک مرتبہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فجر کے متصل بعد سوتے ہوئے دیکھا تو ان کو جگایا اور سونے سے منع فرمایا۔ (ترغیب ص ۱۹۱ ج ۲ بحوالہ تحقیق)

(۶۱) بازار میں ذکر اللہ: جب انسان اپنے کار و بار کے لیے بازار میں جائے تو اس وقت تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا ایسا ہے جیسے جہاد سے پیغمبر مسیح کو بھاگتے ہوئے انسانوں کے درمیان کوئی شخص ثابت قدم رہے۔ (ترغیب ص ۱۹۲ ج ۳ بحوالہ ابو طبرانی)

حضرت ابو قلابة "مشہور تابعین" میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں دوآ دمیوں کی ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ "آؤ ایسے وقت جب لوگ غفلت میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔" یہ سن کر دوسرے نے بھی استغفار کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور دوسرے شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے۔ "جس شام ہم دونوں بازار میں ملے تھے۔ اس شام اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کی مغفرت فرمادی تھی۔ (ترغیب ص ۱۹۲ ج ۳ بحوالہ ابن ابی الدنیا)

یوں تو بازار میں جس ذکر کی بھی توفیق ہو جائے، خیر ہی خیر ہے۔ لیکن خاص طور پر بعض اذکار کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں۔

لَا إِلَهَ أَلَا اللَّهُ وَحْدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُخْبِرُ وَيُمِيزُ وَهُوَ خَيْرٌ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات
کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزار ہزار نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہزار ہزار (صغیرہ) گناہ
معاف فرماتے ہیں اور ہزار ہزار درجے بڑھاتے ہیں۔ (ترمذی)
ان کلمات کو خاص طور پر یاد کر لینا چاہیے اور بازار میں رہنے کے دوران ان
کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔

(۶۲) پتیٰ ہوئی چیز کا واپس لے لینا: بعض اوقات ایک شخص کسی سے کوئی چیز
خرید لیتا ہے۔ لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ اسی صورت میں یعنی
والے کے ذمے یہ واجب تو نہیں ہے کہ وہ ضرور پتیٰ ہوئی چیز واپس لینا منظور کرے۔
لیکن اگر وہ خریدار کی پیشگانی یا اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے واپسی منظور کر لے تو
حدیث میں اس کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بِيَعْتَهَ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

جو شخص کسی مسلمان سے کی ہوئی بیع کو واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف فرمائیں گے۔ (ابوداؤد)
(۶۳) کسی ضرورت مند کو قرض دینا: کسی ضرورت مند شخص کو قرض دینے کا
بھی بہت ثواب ہے، حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”ہر قرض صدقہ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

پلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو قرض دینے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ (ترمیت بخاری طبرانی و بیہقی)

غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض میں عموماً اتنی رقم دی جاتی ہے جس کے صدقہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی اور وہ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن لوگوں سے مانگتا نہیں لہذا اس کی ضرورت پوری کرنے میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔

(۲۳) تَنْجِدْسُتْ مَقْرُضٌ كُوْمَهْلَتْ وَيَبْلَا: کسی تندیست مقروض کو قرض کی ادائیگی میں مهلت دینے کی قرآن و حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

وَإِنْ كَانَ ذُؤْعْسَرَةً فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ
اور اگر مقروض تندیست ہو تو خوش حالی تک اسے مهلت دی جائے۔

(سورۃ البقرہ)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَنْظَرَ مُغْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَأَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ
غَرْشِبَهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلْلَهُ.

جو شخص کسی تندیست کو مهلت دے یا اس کے قرض میں کمی کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دن اپنے عرش کے سامنے میں رکھیں گے جس دن اس کے سامنے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ (ترمذی و قالب: حسن صحیح)

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”چھپلی امتوں میں سے ایک شخص کی روح فرشتوں نے قبض کی اس سے

پوچھا گیا کہ کیا تم نے کوئی بھلائی کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے دیا کریں اور جو شخص خوش حال ہوا سے بھی چشم پوشی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرشتوں سے فرمایا کہ تم بھی اس شخص سے چشم پوشی کرو۔“ اور اس طرح اس کی مغفرت ہو گئی۔ (بخاری وسلم)

(۶۵) تجارت میں سچ بولنا: تجارت کو بظاہر دنیاداری کا کام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر تجارت اس نیت سے کی جائے کہ اس کے ذریعہ رزق حلال حاصل کیا جائے گا، اور اس سے اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو تجارت کا سارا کام اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے بشرطیکہ اس میں ناجائز کاموں سے پرہیز کیا جائے چنانچہ تجارت میں سچائی اور امانت کو اپنا معمول بنانے والے کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (ترمذی)

جو تاجر سچا اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن اخیاءً صد لقین اور شہداء کے ساتھ ہو گا۔

(۶۶) درخت لگانا: مناسب جگہ پر درخت یا پودے لگانا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَا كُلُّ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

جو مسلمان کوئی پودا لگاتا یا کھتی بوتا ہے اور اس سے کوئی پرندہ یا انسان

کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

یعنی جو کوئی انسان یا جیوان اس درخت یا کھتی سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کا

ثواب لگنے والے کو مسلم ملتار ہے گا، اور یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔

(۶۷) جانوروں کے ساتھ حسن سلوک: اسلام نے انسان کی طرح جانوروں

کے بھی حقوق رکھے ہیں، جو جانور موزی نہیں ہیں ان کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا منع ہے۔

یہاں تک کہ جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی ایسے طریقے سے ذبح کرنے

کی تاکید کی گئی ہے جس سے ان کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا

کہ ذبح سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے اور ذبح ہونے والے جانور کو جتنی زیادہ سے

زیادہ راحت پہنچائی جاسکے پہنچائی جائے۔ (ترمذی)

چنانچہ جانوروں پر ترس کھانا، ان کی پروردش کرنا اور ان کو آرام پہنچانا اللہ تعالیٰ

کو بہت محظوظ ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔

آنحضرت ﷺ نے پچھلی استوں کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ اسے سفر کے

دوران شدید بیاس گئی۔ تلاش کرنے پر اسے ایک کنوں نظر آیا۔ جس پر ڈول نہیں تھا وہ

کنوں کے اندر اتر اور پانی پی کر اپنی بیاس بجھائی۔ جب وہ پانی پی کر چلا تو اسے ایک

کتا نظر آیا جو بیاس کی شدت سے مٹی چاث رہا تھا۔ اسے کتنے پر ترس آیا کہ اس کو بھی

ویسی بیاس گئی ہوئی ہے۔ جیسی مجھے لگی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے پاؤں سے چڑے

کاموزہ اتنا اور کنوں میں اتنا کر کراس موزے میں پانی بھرا اور موزے کو منہ میں لٹکا کر

کنوں سے باہر آ گیا اور کتنے کو پانی پلا یا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا عیل اتنا پسند آیا کہ اس کی

معنفہ فرمادی (بخاری و مسلم)

(۲۸) موزی جانوروں کو ہلاک کرنا: البتہ جو جانور موزی ہوں اور ان سے انسانوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوان کو ہلاک کرنا بھی نیک عمل ہے جس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثلاً سانپ بچھو کو مارنے پر بھی ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود خطبہ دے رہے تھے کہ دیوار پر چلنا ہوا ایک سانپ نظر آیا۔ آپ نے خطبہ نئی میں روکا اور ایک چمٹری سے سانپ کو مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے نہ ہے کہ:

من قُتِلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَكَانَمَا قُتِلَ مُشْرِكٌ كَأَخْلَقَ دُمَّهُ.

جو شخص کسی سانپ یا بچھو کو ہلاک کرے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اس مشرک کو قتل کرے جس کا خون حلال ہو۔

(ترغیب ص ۳۰۲ ج ۲ جوال بزار)

اسی طرح آنحضرت ﷺ نے چچکلی کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چچکلی کو پہلی ضرب میں ہلاک کرے اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی اور جو شخص اسے دوسری ضرب میں ہلاک کرنے اسے اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی (اس مرتبہ آپ نے پہلے کم نیکیاں بیان فرمائیں) اور جو شخص اسے تیسرا ضرب میں ہلاک کرے اسے اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اور اس مرتبہ دوسری سے بھی کم نیکیاں بیان فرمائیں۔ (صحیح مسلم)
اسی طرح دوسرے موزی جانور جن سے انسانوں کو واقعی خطرہ ہوان کو مارنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔

(۲۹) زبان کو قابو میں رکھنا: زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے اور اگر

چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کم گوئی کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔“ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟“ آپ نے فرمایا:

اَن يَسْلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ.

یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ (زغیب ص ۳۰۲ ج ۲) بحوالہ

طبرانی بساند صحیح

لیعنی زبان کو دوسروں کی ولاؤ زاری سے غیرت سے، دھوکہ دہی سے روکو۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ ”نجات کا طریقہ کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا:

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْعَكَ يَثْكَ وَابْنَكِ عَلَى خَطِيبِتِكَ.

انپی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے اور اپنے گناہ پر رود۔ (ابوداؤ دو ترمذی)

گھر کے کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکل کر فتنے میں مبتلا نہ ہو اور گناہ پر رونے سے مراد گناہ پر اظہار ندانامت اور توبہ کرنا ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں دوایے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلاکیں میرانی عمل میں بہت بھاری ہے؟“ حضرت ابوذرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ!

ضرور ہتائیے۔ آپ نے فرمایا:

عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْعَلْقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ.

خوش اخلاقی، اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔

(ترغیب ص ۳۴۷ ج ۲ بحوالہ طبرانی و ابویعلی و رجال ثقات)

ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابوذر رداء رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات ارشاد

فرمائی۔ (ایضاً بحوالہ ابو اشج)

(۴۰) **فَضُولٌ بِاتُّوْنَ اُوْرَكَامُونَ سَے بَچْتَا:** جس کام میں دنیا یا آخرت کا کوئی

فائدہ نہ ہو وہ فضول ہے اور قرآن و حدیث میں فضول باتوں اور فضول کاموں سے

بچنے کی بڑی تاکید اور ترغیب آتی ہے۔ قرآن کریم نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی

صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُغَرَّضُونَ. (سورۃ المؤمنون)

اور وہ لوگ جو لغو (فضول) چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

إِنْ حُسْنِ إِسْلَامٍ الْمُرْءُ تَرْكُهٗ مَالًا يَعْنِيهُ.

انسان کے اچھا مسلمان ہونے کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ بے فائدہ

کاموں کو چھوڑ دے۔ (ترفی)

الہذا فضول بخشوں بے فائدہ کاموں اور بے کار مشاغل سے پرہیز کرنے کا

اهتمام کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

(۴۱) تا (۴۷) چھ جامع نیکیاں: ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے چھ

ایسے اعمال پتائے جن کی پابندی کرنے والے کے لیے آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِصْمَنُوا لِي سِتًا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَصْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: أَدُوا إِذَا
الثُّمُّتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدْتُمْ وَاصْلُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ
وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُصُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُوا أَيْدِيَكُمْ.

مجھے اپنی طرف سے چھ باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو۔ جب کسی سے کوئی معاهدہ کرو تو اس کو پورا کرو جب بات کرو تو صح بولو اور اپنی شرمنگاہوں کی (ناجائز کاموں سے) حفاظت کرو اور اپنی نگاہیں پیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو (دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور گناہ کرنے سے) روکو۔ (شعب الایمان للبیهقی ص ۳۲۰ ج ۲۳ حدیث ۵۲۵۶)

(۷) دائیں طرف سے شروع کرنا: اچھے کاموں کی ابتداء دائیں طرف سے کرنا بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا پسندیدہ عمل ہے جس پر ثواب کی امید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنے تمام کاموں میں دائیں سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے وضو میں بھی نکھلی کرنے میں بھی اور جوتا پہننے میں بھی۔ (صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ قَابِدُمْ وَإِبِيَامِنْكُمْ.

جب تم بہاس پینے والوں کو خوکرہ تو داشتی طرف سے شروع کرو۔

(ابن حجر و بن قندی)

حضرت ابو یہر رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:
إِنَّمَا تَعْلَمُ أَخْذَكُمْ فَلَيْتَنَا بِالْيَمِينِ، وَ إِذَا نَزَعَ فَلَيْتَنَا
بِالشَّمَاءِ۔ (عصرہ علم)

جب تم میں سے کوئی جھنا پینے تو وائیں طرف سے شروع کرے اور
جب اسرا غذا بائیں طرف سے شروع کرے۔

ای طرح آنحضرت ﷺ نے وائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا اور بائیں
ہاتھ سے کھانے سے حج فرمایا۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ
نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی شخص کھانے تو اپنے وائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے تو
وائیں ہاتھ سے ہے۔" (صحیح)

اگر کوئی حیر تھم کرنی ہو تو بھی وائیں طرف سے تھیم شروع کرنی چاہیے۔
آنحضرت ﷺ کا معمول یہ تھا۔

بیت الحلا میں جاتے وقت بیالاں پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے اور نلتے وقت
بیالاں پاؤں پہلے کالانا چاہیے اور سبھ میں داخل ہوتے وقت اس کے پر گلہ بیالاں
پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے اور بیالاں پاؤں پہلے کالانا چاہیے۔ سنت کی اتباع کی نیت
سے لکھا گا اللہ یہ تاہم کام باعث اجر و ثواب ہوں گے۔

یہ انتہائی آسان اعمال ہیں اور ذرا کی توجہ اور عادت ڈالنے سے ان کے
ذریعے اتباع سنت کا فور حاصل ہو جاتا ہے پھر کوئی شروع سے ان باتوں کا عادی
ظہار ہا جائے۔

(۷۹) گرے ہوئے لقئے کو صاف کر کے کھالینا: آنحضرت ﷺ نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی نوالہ زمین پر گرجائے تو اسے اخا کر جو مٹی وغیرہ لگ گئی ہو اسے صاف کر کے اور ضرورت ہو تو دھو کر کھالینا چاہیے۔ حضرت جامشیر سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جب تم میں سے کسی سے لقمہ گرجائے تو جو ناپسندیدہ چیز اس پر لگ گئی ہو اسے دور کر کے اسے کھائے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، پھر فارغ ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصہ میں برد ہے۔“ (صحیح مسلم)

اس حدیث کی رو سے اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری شیطانی عمل ہے اور اخا کر کھالینے میں رزق کی قدر دافنی ہے۔ چنانچہ ان اعمال پر انشاء اللہ ثواب ملے گا۔ لہذا ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں نام نہاد شرعاً سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر لقمہ اس طرح گرجائے کہ اسے صاف کرنا ممکن نہ ہو تو دوسری بات ہے۔

(۸۰) چھینک آنے پر محمد اور اس کا جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند ہیں جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمد لله“ کہے اور جو شخص اس کو نے اس پر پہنچ کا حق ہے کہ وہ یَرْحَمُكَ اللَّهُ“ کہے۔ (صحیح بخاری)

یہ اسلامی تہذیب کے وہ آداب ہیں جن کا ہر مسلمان عادی ہوا کرتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ اب لوگ ان چیزوں سے بھی نا آشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ ان آداب کو پھر سے زندہ کرنے اور ان کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔

(۸۱) اللہ تعالیٰ کا خوب و خشیت: اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ اس کی تاریخی سے انسان ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی تاریخی کا خوف و عمل ہے جس کی قرآن کریم اور احادیث میں جا بجا تا کید کی گئی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے پچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں اس درخت کے سوکھے پتے گرنے لگے اور درخت پر صرف بزر پتے رو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اس درخت سے کیا مثال نکلتی ہے؟“ لوگوں نے کہا کہ ”اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں“ آپ نے فرمایا کہ ”اس کی مثال اس مومن کی ہی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے مجرم ہری آجائے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں اور نیکیاں رہ جاتی ہیں۔“ الترغیب ص ۲۲۷ ج ۵ جواہر بیہقی

اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا خیال دل میں جمایا جائے۔ بچپنی امتوں کے انجمام کو سوچا جائے اور قرآن و حدیث میں نافرمانوں کے لیے جو عذاب مذکور ہے اس کا تصور کیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت دل میں پیدا ہوگا اور اس کے نتیجے میں گناہوں بعد عنوانیوں اور ظلم و زیادتی پر انسان کی جرأت کا خاتمه ہوگا اور اس کے نتیجے میں ”تقویٰ“ حاصل ہو گا جو تمام نیکیوں کی بنیاد اور دینا و آخرت میں انسان کی اصلاح و فلاح کا واحد راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائیں۔ آمین۔

(۸۲) اللہ تعالیٰ سے امید اور حسن ظن: اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کے ساتھ اس کی رحمت سے اپنے لیے بھلائی کی امید رکھنا بھی بہت عظیم عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ حُسْنَ الظُّرُفِيَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ۔ (تندی مکالم)

(اللہ تعالیٰ سے) اچھا لگاں رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت ہے

اور ایک حدیث تدہی میں آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ قریباً

ہے کہ:

أَنَا أَعْذُّ طَلَنِ عَبْدِيَّ بِي وَ أَنَا فَعَدْ خَيْثَ يَدْ كُرْبَى۔

میر امذہ مجھ سے جو لگان رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوں اور جہاں

وہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ (حدیث مسلم)

غرض قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھنے کے
برے فضائل و اورد ہوئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی استحکامت کے
مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زرعی گزارنے کی کوشش میں ناکام ہو
جہاں اس کوشش کے باوجود غلطیاں اور کوتایاں ہو جائیں تو ان کے پارے میں اللہ
تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی زرعی میں اللہ تعالیٰ کے احکام
سے بالکل عافیل ہو اپنی اصلاح کی مطلق تکرہ کرے اور اپنے آپ کو بے شکم عقول
خواہشات کے پیچے پٹنے کے لیے آزاد چھوڑ دے اور اس غفلت کو زبے غلری کے
باوجود یہ آزادی میں باندھ کر خود بخوبی مخفیت ہو جائے گی تو ایسے شخص کی حدیث میں
ختنمہ مدت کی لگتی ہے۔

صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی لگر کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف
و خشیت اس کے ساتھ حسن ٹلن اور اس کی رحمت کی امید و نومن باؤں کو اس طرح صحیح
کرے کہ "بیم و رجا" کی ملی جملی یقینیت اس پر طاری رہے۔

حضرت اُس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک نوجوان

کے پاس تشریف لے گئے جو بستر مرگ پر تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ ”تم کیا محسوس کرتے ہو؟“ اس نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے۔ لیکن ساتھ ہی اپنے گناہوں کا ذریحی ہے۔“ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”جس مؤمن کے دل میں اس جیسے موقع پر یہ دو باتیں جمع ہوں اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری فرمادیتے ہیں اور اس کے خوف سے ماامون فرمادیتے ہیں۔“ (ترمذی)

